

# انکشافاتِ حق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ  
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ  
 اِلٰهِ یَوْمِ الدِّیْنِ  
 اِلٰهِ یَوْمِ الدِّیْنِ  
 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ

قرآن کے وہ ان آیت انکشافات، جنہیں جدید سائنسی علم سے دورہ شعر میں جاتا ہے، قرآن کے لہجے میں ہے یہ وہ آیتیں قرآن میں ہیں جو سائنس اور فطرت کے ساتھ ہیں اور قرآن، محمد ﷺ اور اللہ کے نام سے ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اور مستشرقین کی آراء سے



شاہد محمود ملک

# انکشافاتِ حق

قرآن کے وہ (نن گنت) انکشافات، جنہیں جدید سائنسی علوم نے عصر حاضر میں جانا،  
قرآن کے الہامی ہونے پر ناقابل تردید علمی اور عقلی دلائل اور عمومی و تاریخی شواہد ہیں،  
قرآن، محمد ﷺ اور اسلام کے بارے میں نو مسلم و غیر مسلم مفکرین اور مستشرقین کی رائے اور  
یہ تمام مباحث کی وضاحت و بحث سے قبل آپ سے متعلق قدیم صحیفوں، الہامی کتب اور کاجنوں کے انکشافات۔

شاہد محمود ملک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس کے فرشتے ہی پاک ﷺ پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لیے اسے ایمان والو! تم  
پر اس ﷺ پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ (احزاب 56)

درود پاک

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلٰی  
اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝ اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا  
بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝



م اس فرآن کو بہاؤ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ہلے لگتا اور  
﴿﴾ (حشر-21)



اس پروردگار! تو نے جو کتاب اپنے حبیب مکرم ﷺ پر نازل فرمائی اور اس  
پر ایمان، فضل و کمال اور حقانیت و عظمت بخشی، اس کی صحیح پہچان نصیب فرما کہ جس  
پر اس کا تاریک دل روشن اور مردہ رو حیاں زندہ ہو جائیں۔

عاجز

شاہد محمود ملک

جملہ حقوق بحق مؤلف و مصنف محفوظ ہیں :

طابع : انتخاب جدید پریس، رائے پارک لاہور

ناشر : الحق سٹاکس، کوٹلی، آزاد کشمیر - 42745 (0586650)

کیپوزنگ : نیشنل کیپوزنگ سنٹر، ٹار مارکیٹ، کوٹلی، آزاد کشمیر

ایڈیشن : اول

قیمت : 120 روپے

ملنے کا پتہ : الحق سٹاکس - نزد ضلع پکیری، کوٹلی، آزاد کشمیر -

فون نمبر : 058660-42745

058660 - 44341

انگلینڈ میں ملنے کا پتہ :

Tahir Mahmood Malik,

68, Bradley Road, Luton Beds, England, U.K

Ph: 0158-704351

انتخاب جدید پریس 8-ایٹ روڈ لاہور فون نمبر: 6314365

# انتساب

اپنے والدِ محترم

محمود خان ملک ایڈووکیٹ<sup>رح</sup>

(سابق صدر بارو ممبر بار کونسل) کے نام!

جن کی شخصیت نے میرے قلب و ذہن پر،

☆ خیالات کی عظمت پھونکی،

☆ حرفوں کی شیرینی گھولی،

☆ لفظوں کی پہچان بخشی اور

☆ جستجو کی بے تالی سوچی،

جس سے

مجھے اظہار کی یہ جرات ملی۔

# فہرست

صفحہ نمبر	عنوان
10	حرفِ اول
12	دیباچہ
14	باب اول سائنسی انکشافاتِ قرآن
15	توسیع کائنات
18	گرہِ شِ سورج
21	زمین کا سکونا
23	درکتہ زمین
25	آسمان کیوں نہیں ہوتا؟
27	آسمان میں سانس کا ٹھکانا
29	پیدائشِ انسانی کے مراحل
31	تین پردے
33	نام مشاہدات
35	انگلیوں کی پوری
36	ہاتھ میں جوڑے
38	ماملہ کرنے والی ہوائیں
40	شہد کے رنگ

80	اسلام قرآن الہامی کیونکر؟ (بیسویں عقلی اور علمی دلائل)
102	اب ۲۰ عمومی و واقعاتی شہادتیں
102	لاشبہ فرعون
105	روم کی حیران کن فتح
107	وعدہ خلافت و حکومت
109	غلبہ دین حق
110	انجام ابولہب
112	ابو جہل کی داستان عبرت
114	یہودیوں سے متعلق انکشاف
116	آسمانی نکل
117	پانچ دشمنان دین
119	قرآن کے متعلق وعدے
126	حسن الفاظ قرآن
131	تاریکی سے اجالا
133	ندائے ہر اکھبر
134	احسان الہی
135	اطلاق موسیٰ
136	حق آیا، باطل مٹا

42	نظر یہ بتائے اسلح
44	آغاز دنیا و حیات
48	پارش کا بر سنا
50	دو سمندر
51	پھولے بڑے ذرات
53	کمال تناسب
55	گموارہ اور روشنی
58	اللہ کا ایک دن
60	اللہ سب سنتا ہے
61	عظیم ترین حساب دن
62	درخت سے آگ
63	فولاد
64	مختلف جانور
65	حیرت انگیز کارکن
67	جدید سواریاں
69	سائنسی علوم اور قرآن
70	مطالعہ کائنات
78	ایک حکایت
79	حیرت انگیز حقیقت

137	اختلافِ ترجمہ و تفسیر
142	حکمت و مشابہات
146	باب چہارم تاریخی شہادتیں
147	طوفانِ نوح
149	بربادی کائنات
152	عذابِ مصر
156	آندھی سے تباہی
158	دو مشرق، دو مغرب
159	آسمانی لشکر
162	پتھروں کی بارش
163	من و سلوی
165	آسمانی چنگھاڑ اور آوند سے منہ گرنا
169	ہر طرف اندھیرا
172	صرف اولادِ نوح باقی رہی
175	باب پنجم قرآن کے متعلق غیر مسلم اور نو مسلم دانشوروں کی آراء، شانِ محمد ﷺ
182	باب ششم قدیم صحائف اور الہامی کتب میں حضور ﷺ کا ذکر خیر
184	

198	برہانہاں کی انجیل
206	پروفیسر آرنلڈ کا ذکر
208	انبیاء کا عمد
209	کاتبوں کی پیشگوئیاں
211	سطح اور شق
	باب ہفتم حضور ﷺ غیر مسلم دانشوروں کی نظر میں اسلام کے متعلق غیر مسلم مفکرین اور نو مسلموں کے تاثرات
218	
227	
238	باب ہشتم متفرقات
238	اسبابِ مصائب
240	راہِ سکون
241	پچی توبہ اور اس کی شرائط
243	فرقہ پرستی
245	جہاد فرض ہو چکا
249	ماہِ حاصل
250	احکاماتِ قرآن

## حرفِ اول

حق کی جستجو، فکر و نظر کے مدیج راستوں پر ڈال دیتی ہے جہاں خیالات کی وسعت اور سچائی کی تلاش، ان گنت سوالات کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ جب حقائق صدیوں کی طویل مسافت کے بعد دم توڑ چکے ہوں تو ان میں نئی روح پھونکنے کے لیے تحقیق و تفتیش کی کلیسیا تو تیس ہی آپ حیات ثابت ہو سکتی ہیں۔ انٹلکٹ فکری کاوشیں نہ صرف مسائل و واقعات کی گتھیاں سلجھاتی ہیں بلکہ ان سے بہر توں کی نئی کوئٹیں پھوٹتی ہیں جو جدید دریافتوں اور ایجادات کا موجب بنتی ہیں۔

فکری کاوشیں اپنی جگہ مگر، عقل کے بے کراں میں اترنے کیلئے راہنمائی کا دامن تھا مٹا ہی پڑتا ہے اور ہر طرح کے دنیوی و دنیاوی معاملات میں راہنمائی کا منبع کلامِ الہی سے بھر بھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم کا فلسفیانہ انداز مباحث، سوچ میں ایک نیاز اور نظر پیدا کرتا ہے جو ابہام کے پردوں کو چیرتا ہوا ذہنی بیداری و وسعت اور قلبی اطمینان و سکون تک لے جاتا ہے۔

میری کتاب، ”انکشافاتِ حق“ دراصل ایسے ہی حقائق پر مشتمل ہے جنہیں عصر حاضر میں جدید سائنس اور دیگر علوم کی پیداوار و دریافت سمجھا جاتا ہے مگر حقیقت اس کے برعکس ہے کیونکہ صدیوں بعد منظر عام پر آنے والے ان حقائق کو قرآن حکیم نے بہت پہلے بیان کر دیا تھا۔ میں نے حقائق کی تصریح کے لیے جدید سائنسی تکنیک کے ساتھ ساتھ قدیم تاریخی روایات اور جدید تعلیمات کو ٹھوس دلائل کے ذریعے عقل کی کسوٹی پر جانچا اور پرکھا ہے تاکہ کسی منطقی نتیجہ پر پہنچا جاسکے۔

جہاں ہمیں، میں نے شعور کی استطاعت سے اپنے ارد گرد بھرے حقائق کو قرآن کی روشنی میں، کھینچنے کی کوشش کی ہے اور اب اپنی اس تحقیق میں آپ کو بھی شامل کرنے کی جدت میں کہ جو وہی فضاء میں فکر و تدبر کی درازیں پڑ سکیں۔ میں کس حد تک کامیاب رہا؟۔

ان ساری جدوجہد میں،

اللہ رب العزت کی بے شمار برکتیں و نعمتیں، میری روح و قلب کی گہرائیوں شامل کی جس میں نبی مہربان ﷺ کی رحمتیں اور عظمتیں

میں صد بار شکر گزار ہوں کہ مجھ کو ان سے قرآن کی تفسیر جدید کے لیے ممولی سا کام دل میں سامنے آیا۔

آر میں اپنے بڑے بھائی محترم جناب طاہر محمود ملک اور برادر محمد اہمال کھوکھور (آفیسر زرعی بینک) کا انتہائی احسان مند ہوں کہ انہوں نے اس کوشش میں اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔

اپنا لوبا پہ تکمیل تک پہنچانے پر، میں اپنے صحافی دوست امتیاز احمد کا ممنون ہوں۔

اگر کتاب میں کسی قسم کی کوئی تکنیکی غلطی یا علمی لغزش پائیں تو درج ذیل پتہ پر تحریری اطلاع لیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اسے دور کیا جاسکے۔

شاہد محمود ملک

نزد ضلع پکھری، کوٹلی (آزاد کشمیر)

## دیباچہ

میری خوشی کی ابتداء نہ رہی جب مرحوم و مغفور محمود خان ملک ایڈووکیٹ کے فرزند ارجمند شاہد محمود ملک نے مجھے یہ کتاب مطالعے اور رائے کے لیے دی۔ عزیز نے مختلف الانواع سائنسی اور تاریخی تحقیق سے ہر دور میں قرآن کے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو جس احسن طریقے سے دور کیا ہے، اہل علم کے لیے خاص کر جو لوگ سائنسی علوم سے رغبت رکھتے ہیں، ان کے لیے بہترین معلومات کا خزانہ ہے۔

عزیز نے جس عرق ریزی کے ساتھ قرآن، حضرت محمد ﷺ اور اسلام کے بارے میں غیر مسلم علماء و دانشوروں کی آراء کو مرتب کیا ہے، قابل تحسین ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ان کا تعلق علم حق سے ہمیشہ قائم رکھے۔

محمد اعظم (خلع ملحق کوٹلی آزاد کشمیر)



مؤلف و مصنف شاہد محمود ملک کی اس کتاب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ عام طرز کی اسلامی کتب سے ہٹ کر سائنسی، تکنیکی، تاریخی اور واقعاتی تحقیق پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد اس اقرار کے سوا کہ قرآن ہی ازلی، ہدی اور الہامی کلام ہے، کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔

یہ کتاب علمی شگفتہ رکھنے والوں کے لیے ذوق تسکین کا سبب اور جدت طرازوں

کے لیے مشعل راہ نماند ہوگی۔ اس کتاب کی تالیف پر مولف بلاشبہ مبارک باد کا مستحق ہے۔ اللہ مولف کو اجر عظیم عطا فرمائے۔

قاضی محمد عظیم نقشبندی



## باب اول سائنسی انکشافاتِ قرآن

ہم سب اس حقیقت سے غولی واقف ہیں کہ آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے جب قرآن حق کی تزیل فرمائی گئی تو ہر طرف جمالت کا دور دورہ تھا۔ تاریکی کے اس دور میں نازل کی جانے والی اس عظیم القدر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لا تعداد حقائق کا انکشاف فرمایا، جن کا ہونا تو مقدر فرمایا جا چکا تھا یا وہ موجود تو تھے پر ہمارے لیے نامعلوم تھے۔

تو آئیے اب ہم ان انکشافاتِ قرآن کا بغور مطالعہ کرتے ہیں جو صدیوں کی تحقیق و تجربے کے بعد مفکرینِ سائنس کے علم میں آئے۔ ان کے ذکر سے پہلے ایک وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ان حقائق کو بیان کرنے کا مقصد یہ ثابت کرنا نہیں کہ دورِ جدید کی سائنس، قرآن کی تائید و تصدیق کرتی ہے بلکہ یہ حقیقت سامنے لانا ہے کہ سائنس ہزار ہا برس کی انتھک محنت کے بعد حقائقِ قرآن کے سرے کو پاسکی ہے اور اس کا راہِ حق کا یہ سفر جاری و ساری ہے۔

سائنسی علوم پر کھانے والی ہر وہ حقیقت جو صدیوں قدیم تزیل، قرآنِ حکیم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، قرآن کے معجز اور اس کے وحی منجانب اللہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

\*\*\*

## توسیع کائنات

اس کی تحقیق کے بعد ماہرینِ فلکیات مندرجہ ذیل نتائج پر متفق ہوئے،  
کائنات کی تمام گالکسیاں کا قطر ایک لاکھ نوری سال ہے اور سورج اس کے مرکز سے تیس  
ہزار سال کے فاصلے پر ایک کنارے پر واقع ہے۔ (Great Design)  
کائنات کی تمام گالکسیاں کے علاوہ کائنات یا آسمانوں میں ایک ارب ککشاخیں اور بھی ہیں۔

(Children Encyclopedia)

کائنات میں تقریباً ایک ارب ستارے ہیں اور ہمارے سورج کے علاوہ تقریباً  
ایک سو ارب ستارے سورج اس کائنات میں بچو گردش ہیں۔ (Ask Me Why)  
کائنات یا حقائق سے معلوم ہوا کہ ہماری کائنات ہماری سوچوں سے بھی کہیں زیادہ  
بڑی ہے۔

کائنات کی تمام ککشاخیں ایک دوسرے سے دور سے دور تر ہوتی جا رہی ہیں جس سے  
کائنات کی تمام گالکسیاں اور کائنات میں مسلسل توسیع ہو رہی ہے۔

"All the galaxies are racing away from us and moving  
each other... this suggests that the Universe is expanding  
and cooling." (Children Encyclopedia)

کائنات کی تمام گالکسیاں ہم سے اور ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں۔ جس سے اندازہ  
ہو سکتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔

5- سٹیفن ہوڈنگ (Stephan Hawking) اپنی حالیہ تالیف "A Brief History of Time" میں لکھتا ہے،

ج۔ "1929ء میں ایڈون ہبل (Edwin Hubble) وہ پہلا ماہر فلکیات تھا جس نے یہ عظیم مشاہدہ کیا کہ آپ جہاں بھی نظر ڈالیں، دور کی کہکشاؤں ہم سے تیزی سے دور جاتی دکھائی دیتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔" (ترجمہ صفحہ 9)

ب۔ "کائنات کی وسعت کی یہ دریافت، بیسویں صدی کا ایک عظیم انقلاب تھا" (ترجمہ صفحہ 42)

ج۔ "ڈاپلر کے اصول کے تحت ان کہکشاؤں کی رفتار جس سے وہ مسلسل ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ارب سال میں ہر کہکشاں ہر دوسری کہکشاں سے پانچ سے دس فیصد تک دور ہو رہی ہے۔" (ترجمہ صفحہ 49)

نات یہ ہوا کہ ماہرین کو اس حقیقت کا پتہ سب سے پہلے 1929ء میں چلا کہ کائنات پھیل رہی ہے اور آسمانوں میں مسلسل توسیع ہوتی جا رہی ہے۔

حیرت انگیز حقیقت

اب آتے ہیں اس حیرت انگیز حقیقت کی طرف جس کا انکشاف قرآن عظیم نے

اُس دور میں کیا تھا جس دور میں عربی لوگوں کے پاس فلک بینی کا کوئی معمولی آدہ تک موجود نہ تھا

و السماء بینیها باید و انا لموسعون (ذاریات 47)

"ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان کو وسعت دیتے جاتے ہیں  
اور مت دیتے جائیں گے۔"

سوائے اس کے مزید کیا قابل بیان رہ جاتا ہے کہ قرآن کے الہامی ہونے پر اس سے بڑی شہادت ہو ہی نہیں سکتی۔



## گردشِ سورج

سولہویں صدی کے وسط میں پولینڈ کے ماہر فلکیات نیکولس کاپرنیچ (Nicholes Copernicus) نے قرار دیا کہ سورج ساکن ہے اور زمین اُس کے گرد گردش کر رہی ہے۔ اس اعلان سے پہلے تک دنیا پطلموس کے نظریے (150ء) سے متعلق یہ سمجھتی رہی کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور سورج اور دیگر ستارے اُس کے گرد حرکت کر رہے ہیں۔ یوں اس نظریے پر دنیا علم میں پہلے بچ گئی۔

سترہویں صدی میں جرمنی کے ایک فلک شناس جے کپلر (J. kapler) نے اپنی کتاب ”خلاصہ کاپرنیکی“ میں اس نظریے کی تائید کی تاہم اُس کے خیال کے مطابق سورج اپنی مرکز یا محور کے ارد گرد ضرور گھوم رہا تھا۔ جب کاپرنیکس کے اس نظریے کو دنیا نے مسترد کیا، حقیقت مان لیا تو دنیا نے اسلام میں بے چینی اور اضطراب کی ایک لہر دوڑ گئی اور مسلم علماء و مفسرین کی جان پر ننگی گئی کیونکہ قرآن حکیم سورج کو متحرک قرار دیتا تھا،

1- وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (یسین۔ 39)

”اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا ہے، یہ زبردست علیم ذات کا مقرر کیا ہوا

نظام ہے۔“

2- وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى (رعد۔ 2)

”اور سورج اور چاند کو مسخر کیا اور (ان میں سے) ہر ایک، ایک مخصوص

حد (مدار) تک حرکت کرتا ہے۔“

پیمانہ مسلمان علوم فلکیات میں پسماندہ تھے اس لیے ثابت نہ کر سکے لیکن قرآن کی آیات نے والے پروردگار نے یورپ میں ہی ایسے لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے ثابت کرنے کے بعد معلوم کیا کہ سورج تو اپنے مدار میں گھومتا ہے۔

از سب سے پہلے یہ نتیجہ انیسویں صدی کے شروع میں ولیم ہرشل

(William Herschel) نے اخذ کیا،

"The sun is travelling through the space".

”سورج خلا میں حرکت کر رہا ہے۔“

حد کی تحقیق نے ثابت کیا کہ سورج کسی ایسی سمت کی طرف حرکت میں مصروف

ہے، کہ نامعلوم ہے۔

ڈاکٹر ایلی فورنیا کے ایک ماہر فلکیات جی۔ ایٹکن (G. Aitken) کے نزدیک ہمارا

سورج (سورج اور سیارے) اپنی ککشیاں سمیت 44 ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے

گالکٹک سائیکل کی طرف رواں دواں ہے۔

ڈاکٹر نائیکا انسائیکلو پیڈیا کے مطابق ہمارا سورج اپنے پورے نظام شمسی کو

12 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔

ہر ایک اور فلک بین کے نزدیک سورج دو طرح کی حرکات میں مصروف ہے،

1- اپنے محور کے گرد اور دوسری اپنی ککشیاں کے ساتھ مل کر تمام ککشیاں کے گرد۔

2- اس مرکز کے گرد 22 کروڑ 50 لاکھ سال میں ایک چکر پورا کرتا ہے۔

اس طرح قرآن کی حقانیت ثابت ہو کر رہی اور کیونکر نہ ہوتی،

تَنْزِيلِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سجده-2)

”اس کتاب (قرآن) کو بیشک پروردگار عالم نے ہی اتارا ہے۔“

قرآن کے اس معجزے کے بعد اس کے وہی منجانب اللہ ہونے پر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہ سکتی۔

☆☆☆

## زمین کا سکڑنا

سر جیمز جینز (Sir James Jeans) اپنی شہرہ آفاق تصنیف

”Astronomy and Cosmogony“ میں لکھتے ہیں کہ کروڑوں سال قبل زندگی

سے پہلے زمین، سورج سے الگ ہونے والا ایک گرم ترین گولا (کرہ) تھی۔ بعد ازاں ہارٹون

لی وجہ سے اس پر سمندر روپ پذیر ہوا جس سے یہ ٹھنڈی ہوئی۔ چونکہ سائنسی اصولوں کے

تحت ٹھوس اجسام گرم ہونے پر پھیلتے ہیں اور ٹھنڈے ہونے پر سکڑتے ہیں اسی لیے زمین

جب بہت گرم تھی تو اس کا حجم بہت زیادہ تھا اور بعد میں ٹھنڈی ہونے پر سکڑتی چلی گئی۔

ماہرین ارضیات (Geologists) کی تحقیق کے مطابق برابر سکڑتی جا رہی ہے۔

نبی خاتم ﷺ پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ تعالیٰ اس عمل کی

صراحت ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے،

اولم یوم انا ناتی الارض نناقصا من اطرافها واللہ یحکم لا معقب

لحکمہ (رعد-41)

”کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو ہر طرف سے سکڑتے ہوئے لاتے ہیں اور یہ

اللہ کا حکم ہے اور اس کا حکم کوئی شے ٹال نہیں سکتی۔“

اب ہمارا یہ سوال بے معنی سا ہو کر رہ جاتا ہے کہ ان باتوں کا ذکر، جو آج کے دور

کے ماہرین کے علم میں آئیں، قرآن مقدس میں کیونکر آیا کیونکہ جس عظیم ترین ذات نے

یہ کتاب اتاری تھی اس کا وعدہ ہے،

سنوہیم ایتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق  
(مجموعہ-53)

ہم آفاق و انفس (کائنات اور نفوس) سے ایسی شہادتیں مہیا کریں گے کہ ان پر یہ  
حقیقت کھل جائے گی کہ قرآن حق کی طرف سے ہے (یعنی اللہ کی طرف سے ہے)۔“



## حرکت زمین

پیچھے ایک مضمون میں بیان ہوا ہے کہ کاپر نیکس (Copernicus) کے  
یہیے سے قبل تمام دنیا بطلموس کے دوسری صدی عیسوی کے اس نظریے پر قائم تھی  
کہ زمین ساکت ہے اور سورج اور دیگر ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ یوں ساکنی  
کا نام کے نزدیک حرکت زمین کا انکشاف سب سے پہلے سولہویں صدی کے وسط میں  
کاپر نیکس نے کیا تھا لیکن یہ بات قطعی درست نہیں کیونکہ حضرت محمد ﷺ نازل  
کتاب میں اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے یہ حقیقت منکشف فرمادی تھی،

خلق السموات والارض بالحق بکوراہل علی النہار و بکوراہل علی  
اللیل و سخر الشمس و القمر قل یجری لاجل مسمی (زمر-5)

”اللہ نے زمین اور آسمانوں کو حق سے پیدا کیا، رات کو دن اور دن کو رات میں بدلا  
اور سورج اور چاند کو سخر کیا۔ یہ تمام (زمین، آسمانی گزے اور سورج و چاند) معین حد تک  
انہی مخصوص مداروں میں گھومتے ہیں۔“

حرکت ارض کا یہ واضح اعلان جب اللہ کی کتاب نے بیان فرمایا گیا تھا تو اگر فلک  
میں زمین شناس اسی کو حقیقت مان لیتے تو صدیوں کی تحقیق کے تکلف سے صاف بچ سکتے  
تھے۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوا،

والقی فی الارض رواسی ان تمید بکم (نحل-15)

”ہم نے زمین پر پہاڑ ڈال دیئے تاکہ تمہیں لے کر نہ بھاگے۔“

سائنسی علوم کے تحت یہ پہاڑ زمین کو متوازن رکھے ہوئے ہیں؛ مگر نہ یا تو یہ چٹکولے کھاری ہوتی یا وزن کم ہونے کی وجہ سے اسے کوئی ستارہ یا سیارہ اپنی طرف کھینچ لیتا اور یہ اپنے مدار سے ہٹ پڑتی۔ اور بھاگنے کا اندیشہ سمجھی ہو تا ہے جب کوئی چیز متحرک ہو۔

اب آپ خود بتائیں کہ جب تمام دنیا زمین کا ساکت مان رہی تھی تو نبی امی ﷺ کسی کے بل بوتے پر اتنی بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا رہے تھے جو ہماری نظروں میں آپ ﷺ کے سینکڑوں سال بعد آئی؟

سمجھی اہل دانش چیخ اٹھتے ہیں، یا اللہ! ان دیکھے یہ حقائق جو تو نے نبی ﷺ کی زبان سے سنوائے، اس بات کے شواہد ہیں کہ یہ قرآن وہ آسمانی کتاب ہے جس نے صدیوں پہلے ہزاروں برس بعد رونما ہونے والے حقائق کی نقاب کشائی کی اور جوں جوں زمانہ گزر رہا ہے، قرآنی انکشافات، آفتاب نصف النہار کی طرح دنیاۓ تحقیق پر جلوگاہگرا کر اپنی صداقت و حقانیت کا ادھار ہے ہیں۔

☆☆☆

## تصادم کیوں نہیں ہوتا

ایک اندازے کے مطابق ہماری کائنات میں ہمارے سورج کے علاوہ پندرہ کروڑ کروڑ اور کھربوں دیگر ستارے موجود ہیں۔ رب ذوالجلال نے جن سات آسمانوں کا فرمایا ہے، ان کو الگ الگ گنا تو درکنار، ایسا سوچنا بھی محال لگتا ہے۔ چونکہ انسانی حد نظر اور سماعت کے مطابق سیاروں اور ستاروں کے مجموعے کو ہی آسمان کہتے ہیں اس لیے اللہ نے مختصراً ہم کائناتی کمروں اور ان کی شاہراہوں یعنی مداروں وغیرہ کو آسمان ہی کے نام سے پکارا ہے۔

فضائے نیلگوں اور آسمانوں میں ان اربوں بسجہ کھربوں کمروں کی حرکت ہمہ وقت جاری رہتی ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ ان کا آپس میں تصادم کیوں نہیں ہوتا اور یہ کائنات تباہ یوں نہیں ہوتی؟

اس کے جواب میں سائنسی علماء و جوہات کے ساتھ زیادہ تر حیرت ہی دکھاتے ہیں اور اسے قدرت کے ان دیکھے ہاتھوں کا کرشمہ قرار دیتے ہیں تاہم ان سب کا تخلیق کرنے والا مالک خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے،

1- ان اللہ یمسک السموت والارض ان ترولاولئن زالتا ان امسکھما من احد من بعدہ (فاطر-41)

”بے شک اللہ ہی (تمام کمروں کے مجموعوں) آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے اور اگر یہ اپنے مداروں سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سواہ کون ہے جو انہیں روک سکے۔“

2- ويمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه (حج-65)



لینے میں مشکل محسوس ہوتی ہے بالکل اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے سینے کو بھی تنگ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان اور توفیق کی مسانوں سے آبیاری نہیں پاسکتا۔

۔ سبحان اللہ۔ کہ اس ذات بزرگ دہرت نے یہ سائنسی حقیقت جمالت اور تاریکی کے دور میں اپنے حبیب مکرم ﷺ پر منکشف فرمائی جسے جدید سائنسی علوم نے صدیوں بعد اپنی دریافت قرار دیا۔

آپ خود فیصلہ کریں کہ حقیقت کیا ہے؟

☆☆☆

## پیدائش انسانی کے مراحل

حیاتیاتی علوم نے انیسویں اور بیسویں صدی میں جاناکہ مرد اور عورت کے ملاپ کے بعد نطفہ امشاج، ماں کے رحم میں مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ایک گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر یہ لوتھڑا ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ان پر شہت پڑھ جاتا ہے جس کے بعد اچانک ہی اس چھوٹے سے بے جان جسم میں جان پڑ جاتی ہے جس کے بعد ایک معینہ مدت کے اختتام پر ماں اولاد کو جنم دیتی ہے۔ اس طرح انسانی اولاد مختلف منازل و مراحل کے بعد تخلیق پاتی ہے۔

قرآن میں خالق حقیقی نے ان تخلیقی مراحل کا نقشہ کچھ ان الفاظ میں کھینچا ہے،

ما بھیا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقة و غیر مخلقة لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء اجل مسمی ثم نخر جکم طفلا (ج-5)

”اے لوگو تمہیں قیامت کے آنے میں کچھ شک محسوس ہو تو غور کرو کہ ہم نے

تمہیں پیدا کیا مٹی سے (جسم آدم)، پھر پانی کی بوند (قطرہ منی) سے، پھر خون کی چمک

(نطفہ امشاج) سے اور پھر گوشت کی بوٹی سے تمہاری شکل بنائی تاکہ تمہارے لیے

معاہدہ ظاہر کریں۔ اور پھر ہم تمہیں مقررہ معیار تک، جب تک چاہتے ہیں، ماں کے

رحم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں اور پھر پیدا کرتے ہیں۔“

ایک اور مقام پر فرمایا،

ولقد خلقنا الانسان من سللة من طين ﴿١٢﴾ ثم جعلناه نطفة في قرار  
مكین ﴿١٣﴾ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاما  
فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر (مومنون۔ 12-14)

”بے شک ہم نے انسان کو جنی ہوئی مٹی سے بنایا، اسے پانی کی بوند سے پیدا کیا، اس  
پانی کی بوند کو ہم نے پھلک بنایا پھر اس پھلک کو گوشت کی بوٹی۔ گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنایا اور  
پھر ان پر گوشت پنا کر اسی شکل میں اسے پیدا فرمایا۔“

انتہائی غور طلب امر یہ ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے ایک ایسے وقت میں جب کہ  
قسم کے آلات، اینڈوسکوپ (Endoscopy) یا دیگر جدید سولیات موجود نہ تھیں، کمر  
کے کہنے پر انسانی پیدائش کے اس پورے عمل کی وضاحت فرمائی؟

بالآخر یہ حقیقت ماننا ہی پڑتی ہے کہ مذکورہ آیات اور قرآن، حضرت جبریل نے نبی  
ﷺ تک اسی ذات کے حکم پر پہنچائے تھے جو اپنی تخلیقات سے غیبی واقف تھی۔

☆☆☆

## تین پردے

فرمان باری تعالیٰ ہے،

بخلقکم فی بطون امہتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمت قلت (مر۔ 6)  
”تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک طرح کے بعد ایک اور طرح تین  
پردوں (تسوں) کے بعد تخلیق کیا۔“

تین تسوں یا پردوں کا یہ قرآنی انکشاف گزشتہ عشرے تک ایک راز رہا اور مفسرین  
نظام اس آیت کی تفسیر و تشریح سے قطعی عاری نظر آئے۔ بالآخر جدید ترین ماہرین  
بیانات نے یہ کھوج لگائے،

ماں کے پیٹ میں بننے والے نطفہ امشاج کا بیضہ آہستہ آہستہ یوب  
(Oviduct) سے ہوتا ہوا ٹھنڈا دس دن تک رحم (Uterus) میں پہنچتا ہے اور اپنے آپ  
و تقسیم در تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ہر تقسیم شدہ حصہ نئے جنین (Embryo) کی  
تیاری کے لیے تیار ہو سکے۔ پھر یہ بیضہ رحم کی دیواروں سے چٹ جاتا ہے اور مختلف قسم  
کے خلیات (Cells) اس کے ارد گرد غلاف چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں پہلی تہ یا  
پردہ ”کورین“ (Chorion) وجود میں آتا ہے جس کا کام رحم کی دیواروں سے خوراک  
بذک کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس پر ایک اور تہ ”پلینٹینا“ (Placenta) بنتی  
ہے جس کا کام جنین کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ اس مرحلے کے بعد ظلیہ باہم مل کر تیسرا پردہ  
”امنیون“ (Amnion) بناتے ہیں جو پانی والے پردے کا مکمل احاطہ کرتا ہے اور پہلے

کے پردوں کے ساتھ مل کر باہر سے محسوس ہونے والے جھکوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس طرح ہاں کے پیٹ میں ابتدائی تخلیق ان تین پردوں کے بعد عمل میں آتی ہے۔ (فلسفہ، سائنس اور قرآن از شیخ ندیم الجحر، ترجمہ خدا بخش کلیار ایڈووکیٹ) غور کریں کہ اللہ نے اپنے معجزانہ کلام، قرآن حکیم کی آیت مذکورہ کو کیسے انسانی علم و عقل کے ذریعے سے عیاں فرمایا اور کیسے اس آیت جلیلہ کو تفسیر و تشریح عطا فرمائی؟

✽✽✽

## عام مشاہدات

ہمارے روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ کسی شادی شدہ جوڑے کے ہاں تو کافی زیادہ اولاد آتی ہے اور کسی کے گھر بالکل نہیں۔ کسی کے ہاں تو صرف بیٹے ہوتے ہیں اور کسی کے گھر - ف بیٹیاں۔ الغرض ہر جوڑے کی اولاد کچھ الگ ہی تناسب سے ہوتی ہے لیکن مشکل اس وقت سامنے آتی ہے جب ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق ایک جوڑا نارمل ہوتے ہوئے بھی کسی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے یا بعض اوقات ڈاکٹرز قرار دیتے ہیں کہ فلاں جوڑا صرف بیٹا پیدا کرنے کے قابل ہے تو ان کے ہاں بیٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے یا یہ کہ فلاں جوڑا - ف بیٹیاں جنم دے سکتا ہے تو اس کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں۔ تو ایسے حالات میں ڈاکٹرز اس کو قدرت کے ان دیکھے ہاتھوں کا کرشمہ قرار دیتے ہیں۔ ایسا کیونکر ہوتا ہے، کلام حق سے پوچھتے ہیں:

خلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور ذرا و یزوجھم  
ذکر انا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر (شوریٰ- 49، 50)

”وہ (اللہ) جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹیاں نہ دے اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ بے شک وہ علم و قدرت رکھنے والا ہے۔“  
اول تو مالک جس حال میں رکھے، صادر و شاکر رہنا پڑتا ہے۔ دوم یہ کہ وہ علیم ترین ذات ہے جس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری یا مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے جس تک انسانی عقل اور اک نہیں کر سکتی۔

و عسی ان تکر ہو شیئا و ہو خیر لکم و عسی ان تحبو شیئا و ہو شر لکم و  
اللہ یعلم و انتم لا تعلمون (بقرہ- 216)

”اور قریب ہے کہ تمہیں کوئی بات بُری لگے جبکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں اچھی لگے اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔“

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا پر پیدا ہونے والا ہر شخص اپنی الگ شکل و صورت لے کر آیا ہے اور ہر انسان کی شکل ہر دوسرے انسان کی صورت سے مختلف ہوتی ہے۔ اگرچہ کچھ مجذواں لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تاہم ان کی صورتیں بھی آپس میں بالکل ایک جیسی نہیں ہوتیں، کوئی نہ کوئی فرق ضرور موجود ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تمام انسانوں، خاص کر ایک ہی والدین کے تمام بچوں کی شکلیں بالکل ایک جیسی نہیں ہوتیں؟ وہ کون ہے جو ازل سے اب تک تمام انسانوں کی الگ الگ صورتیں تخلیق فرما رہا ہے؟

هو الذی بصور کم فی الارحام کیف یشاء (ال عمران-6)

”وہ صرف اللہ ہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں اپنی مرضی کے مطابق تمہاری صورتیں بناتا ہے۔“



## انگلیوں کی پوریں

انگلیوں کی پوروں کی ساخت و بناوٹ کتنی پیچیدہ ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ دنیا کے ہر شخص کے پلچر پر تیس (Finger Prints) منفرد ہوتے ہیں اور کسی بھی دوسرے انسان کے پرنٹ سے نہیں مل سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں دستخطوں کے ساتھ انگوٹھے کو انتہائی معتبر اور مستند سمجھا جاتا ہے۔

انگلیوں کی تخلیق کے لیے پہلے 58 ہڈیاں بنائی گئیں، ایک ترتیب سے رکھ کر ان پر عروقِ شعریہ (خون کی نالیاں) کے جال بھجائے گئے اور ان کے اوپر ریشے دار جلد کی بے شمار جہیں چڑھائی گئیں۔ خود بتائیں کہ انگلیوں کی پوریں بنانا مشکل ہے یا ایسی ساختیں تخلیق کرنے کے بعد ان میں روح پھونکنا۔ اسی پر ارشاد ہوا،

ایحسب الانسان ان نجمع عظامه ۞ ابلی قادرین علی ان نسوی بنانه  
(قیامہ-3,4)

”کیا انسان کا خیال ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر پائیں گے جبکہ ہم تو اس کی انگلیوں کی پوریں بنانے پر (جو مشکل تر کام ہے) بھی قادر ہیں۔“



## نباتات میں جوڑے

انیسویں صدی کے وسط تک کسی ماہر حیاتیات و نباتات کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نباتات میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں اور نرو مادہ پودے نباتات کی افزائش نسل میں بالکل اسی طرح حصہ لیتے ہیں جس طرح دیگر جانور۔

علماء نباتات کی 1875ء میں اس دریافت کو کہ پودوں اور درختوں میں بھی جوڑے (نرو مادہ) پائے جاتے ہیں، جدید ترین انکشاف قرار دیا گیا لیکن یہ بات قطعی طور پر درست نہ تھی کیونکہ صدیوں قدیم قرآن نے متعدد مقامات پر پودوں کے جوڑوں کی وضاحت فرمائی ہے۔

- 1- اولم یروالی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم (شعراء-7)
- 2- ونوی الارض هامدة فاذا انزلنا علیہا الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بھیج (ج-5)

”تم دیکھتے نہیں کہ زمین مرجھا جاتی ہے اور جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں (بارش برساتے ہیں) تو وہ تروتازہ ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے رونق دار جوڑے (نرو مادہ درخت) اگاتی ہے۔“

تصور کریں کہ جب ان علماء کے علم میں صدیوں قدیم تنزیل، قرآن پاک کی درج بالا

آیت آئی ہوں گی تو انہوں نے قرآن، اللہ اور محمد ﷺ کے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟

بیسویں صدی کے درمیان میں غلام جیلانی برقی لکھتے ہیں،

”کچھ عرصہ کا ذکر ہے کہ میں نے اپنے ایک ہندو پروفیسر دوست سے جس کی ساری زندگی نباتات کی چھان بین میں بسر ہوئی، ذکر کیا کہ پودوں میں نرو مادہ کا نظریہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، قرآن ایک قدیم کتاب ہے اور یہ نظریہ بالکل جدید۔ جب میں نے پتھال کے انگریزی کے ترجمے سے اسے آیت بالا کا ترجمہ نکال کر دکھایا تو وہ کہنے لگا کہ اب میں قرآن کی صداقت کا عام اعلان کروں گا اور رسول عربی ﷺ کی ثناء و تعجید سے اب مجھے کوئی خیال نہیں روک سکے گا۔ (دو قرآن صفحہ 74، 73)



لَقِحْ - حمل کرنا  
رِيحَ لَوَاقِحٍ - حاملہ کرنے والی ہوائیں

قرآن میں اس حقیقت کا انکشاف جو ہمارے ظلم میں انیسویں صدی میں آیا، اس

۱۰۶ صحیح ترین اعلان ہے کہ

تَنْزِيلَ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ كَتَبَ فِصْلَتَ اٰیٰتِهٖ قِرٰاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ  
عٰلَمُوْنَ (نجم سجدہ۔ 2، 3)

”یہ بڑے مہربان اور رحم کرنے والے رب کی اتاری ہوئی کتاب ہے جس کی آیتیں  
عربی میں تفصیل سے بیان فرمائی گئی ہیں اور یہ عقل والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے۔“

☆☆☆

## حاملہ کرنے والی ہوائیں

صدیوں کی تحقیق کے بعد علماء نباتات اس نتیجے پر پہنچے کہ پودوں میں بھی جوڑے  
(نر مادہ) پائے جاتے ہیں جس کا ذکر پیچھے ”نباتات میں جوڑے“ میں گزر چکا ہے۔ اس  
دریافت کے بعد سوال یہ اٹھا کہ ان جوڑوں کا آپس میں جنسی ملاپ کس طرح عمل میں آتا  
ہے؟

طویل تجربات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ نر پودے کے مخصوص حصوں پر  
زردانے (Pollen grains) پیدا ہوتے ہیں جو مختلف واسطوں کے ذریعے مادہ پودے  
کے خاص حصوں تک پہنچ کر جنسی ملاپ میں حصہ لیتے ہیں جس کے نتیجے میں پھل اور بیج  
پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ زردانے مادہ پودے تک رسائی حاصل نہ کر سکیں تو پھلوں اور بیجوں کا  
حصول ناممکن ہو جائے۔

ماہرین نباتات کے نزدیک ان زردانوں کی منتقلی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوائیں ہیں  
جو ان کو اڑا کر منتقل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ شد کی مکھیوں اور بیہنوروں وغیرہ کے بیٹھنے پر  
بھی یہ زردانے ان کی ٹانگوں سے چٹ جاتے ہیں اور مادہ پودے پر بیٹھنے پر ان سے الگ ہو کر  
دیں رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ان زردانوں کی منتقلی کے چند دوسرے عوامل بھی ہیں تاہم  
سب سے بڑا ذریعہ ہوائیں ہی ہیں۔ اسی لیے تو قرآن حکیم میں ارشاد ہوا،

وَارْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ (حجر۔ 22)

”اور ہم نے حاملہ کرنے والی (ہوا) اور کرنے والی (ہوائیں) بھیجیں۔“

ریح - ہوا  
ریح - ہوائیں

## شہد کے رنگ

عام خیال کے مطابق شہد ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے۔ ایک زمانے تک پوری حیاتیاتی دنیا یہی سمجھتی رہی لیکن بیسویں صدی کے وسط میں ایک ماہر حیاتیات کیٹ لووئل (Kate Lovell) نے ایک عرصے کے مطالعہ و تحقیق کے بعد انکشاف کیا کہ شہد کے ان گنت رنگ ہوتے ہیں۔ اس کی نعم کے مطابق یہ ایک جدید دریافت تھی لیکن جب اس کے علم میں درج ذیل آیت آئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے بھٹی رہ گئیں،

واوھى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا و من الشجر و  
 مما يعرشون ﴿٦٨﴾ ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا يخرج  
 من بطونہا شرابا مختلفا الوانہ فیہ شفاٌ للناس ان فی ذلک لایة  
 لقوم یتفکرون (نحل۔ 68,69)

”اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں، درختوں اور چھتوں میں گھر بنا اور پھر ہر قسم کے پھل کھا اور اپنے رب کی آسمان راہوں پر چل۔ اور اس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز (شہد) نکلتی ہے جس کے کئی رنگ ہوتے ہیں۔

چنانچہ اپنی کتاب ”Nature's Wonder Works“ میں لکھتا ہے،

” Muhammad was a great king, a mighty conqueror, very clever and learned man. From the Quran, we learn

that He was a lover of nature and that he knew something of bees and the value of honey. He speaks of bees building nests for themselves and producing honey of various colours. These things were not obtained without a certain amount of inquiry and observation.”

”محمد (ﷺ) ایک زبردست حکمران، ایک عظیم فاتح، انتہائی باشعور اور با علم آدمی تھے۔

ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نطرت کے شہدائی تھے اور شہد اور شہد کی مکھیوں کی قدر و قیمت سے بخوبی واقف تھے۔ آپ شہد کی مکھیوں کے چمٹے مانے اور مختلف رنگوں کے شہد پیدا کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ علم تحقیق اور مشاہدے کے بغیر حاصل نہ ہو سکتا تھا۔“

اس مفکر کی سوچ اپنی جگہ پر یہ حقیقت کچھ زیادہ سوچنے سے تعلق نہیں رکھتی کہ

ہن عوامل کا علم ہمارے پاس آج آیا، محمد (ﷺ) کو یہ علم کس ذات نے عطا فرمایا تھا کیونکہ ایسی ذات اللہ کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔

تو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب (ﷺ) کو جو علم عطا فرمایا اس کا سب سے بڑا ذریعہ

وہی ہے۔

انا انزلنا الیک الکتب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ (سورہ۔ 105)

”بے شک ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری تاکہ تم اس کے علم کے ساتھ،

تمہیں اللہ نے عطا فرمایا، لوگوں کے درمیان فیصلے کر سکو“

## نظر یہ بقاءِ اصلاح

یورپ میں بقاءِ اصلاح (Survival of The Fittest) کا نظریہ سب سے پہلے رابرٹ ڈارون (1809-1882) نے پیش کیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا میں وہی اشیاء باقی رہتی ہیں جن میں زندہ رہنے کی صلاحیت موجود ہو۔ صلاحیت سے مراد وہ صفات ہیں جن سے قوت، تنظیم، استحکام اور تنوع حاصل ہو مثلاً اٹھارہ قرباتی، علم و عزم، عزت و کردار، اخلاقیات و ہنر، جذبہ خدمت اور سعی و سفر وغیرہ اور یہ کہ جو اشیاء یا جناس دنیا اور دنیا والوں کے لیے مفید نہ رہیں، قدرت ان کو مٹا دیتی ہے (جیسے زمانہ قدیم کے چالیس چالیس فٹ اونچے جانور، ڈائنوسار اور ٹرائوڈان وغیرہ جن کو قدرت کے ہاتھوں نے صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا تھا جبکہ کتا، گدھا، گھوڑا اور اونٹ وغیرہ سب باقی رہے کیونکہ یہ مفید ہیں)۔

اس نظریے کی سب سے زیادہ تشریح بربرٹ سپنسر نے کی، لکھتا ہے،

”ڈارون کا نظریہ یہ تھا کہ کائنات کو بعض ایسی چیزیں درامتناہی تھیں جو رفتہ رفتہ بے کار ہو کر مٹ گئیں اور مفید اشیاء باقی رہ گئیں۔ (سو عظیم آدمی)

اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا كُنَّا وَاعِينَ فِيهِمْ كَمَا نَحْنُ فِي الْأَرْضِ (رعد- 17)

”اور زمین پر وہی اشیاء باقی بیچتی ہیں جو لوگوں کے لیے مفید ہوں۔“

اب یہ بات یقینی لگتی ہے کہ اگر ڈارون اور سپنسر قرآن کی درجہ بالا آیت کا مطالعہ

لے کر تو یا تو وہ اس قدر طویل تحقیق و تجربات سے بچ جاتے یا اس آیت کا ذکر ضرور کرتے۔  
مال یہ طے ہے کہ یہ نظریہ ڈارون سے سوا ہزار سال قبل بیان کرنے والی کتاب صرف  
قرآن حکیم ہی ہے۔

☆☆☆

## آغازِ دنیا و حیات

جہاں تک تعلق ہے ان سوالوں کا کہ زمین کیسے وجود میں آئی، زندگی کا آغاز کیسے اور کہاں سے ہوا؟، تو یہ سوالات علماء فطرت و سائنس کے لیے ہزار ہا برس تک چیلنج و سب سے رہے ہیں۔ اگرچہ ان کا کوئی حتمی اور یقینی حل سامنے نہیں آسکا تاہم علماء مغرب درج ذیل نتائج پر متفق نظر آتے ہیں۔ یہ نتائج حقیقت سے کتنے قریب ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیں۔

اول: سورج و زمین کے وجود سے قبل ایک انتہائی بڑا گولہ (کرہ) فضاء میں تیر رہا تھا اور اس سے پہلے ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ بعد میں اس گولے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہر ٹکڑے نے اپنے مخصوص مدار میں حرکت کرنا شروع کر دی ہمارا سورج اور سیارے (شمسول ہماری زمین)، سب اسی سے پیدا ہوئے۔

خالق کائنات اپنے اس معجزے کا ذکر کچھ یوں فرماتا ہے،

اولم یوالذین کفرو ان السموت والارض کانارا نقافتنہما (انبیاء-30)

”کیا کافر یہ خیال نہیں کرتے کہ پہلے آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انھیں الگ الگ کیا۔“

دھوئیں کے بارے میں ارشاد ہوا،

ثم استوی الی السماء وہی دخان (طہ سجدہ-11)  
”پھر اللہ نے آسمان بنانے کا قصد کیا تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔“

دوم: سر جیمز جیمز (Sir James Jeans) اور جیف ہوکیل (Geoff Hoyle) کے مطابق ہماری زمین سورج سے الگ ہونے والا ایک انتہائی گرم کرہ (کرہ) تھی جس کو بارشوں کے ایک طویل سلسلے نے ٹھنڈا کیا اور اسی دوران سمندر بھی اس تخلیقی مرحلے کو خالق حقیقی یوں بیان فرماتا ہے۔

ومن آیتہ انک تری الارض خاشعته فاذا انزلنا علیہا الماء  
انبتت وربت ان الذی احیاها لمحی الموتی انه علی کل  
شیء قدیور (طہ سجدہ-39)

اور اس (اللہ) کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمین بے جان پڑی تھی پھر جب اس پر پانی برسا یا تو یہ تروتازہ ہو گئی۔ اور بے شک جس نے اس کو زندگی دی وہی مردوں کو (بروز قیامت) زندہ کرے گا۔ بے شک وہ سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔“

سائنسدانوں کے نزدیک تیسرے مرحلے میں جب بارشوں اور سمندر کا پانی زمین کو جذب ہوا تو یہ زمین کے بطن کے ابلتے ہوئے لاووں تک جا پہنچا جس سے اندر کے پتھر حرکت اور بھاپ کے زور سے باہر آکر پہاڑ بن گئے۔ انہی کی وجہ سے زمین متوازن ہوئی اور چٹانوں اور پتھروں کا مسلہ حل ہوا، جیسے ذلتی کشتی میں توازن کیلئے کچھ وزن رکھ دیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم اس تمام عمل کو کچھ ایسے سمیٹتے ہیں۔

وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم (انبیاء-31)

”ہم نے زمین پر پہاڑ ڈالے تاکہ تمہیں لے کر نہ کاٹنے (یعنی بچکولے نہ کھائے)۔“

چہارم: حالات کے یہاں تک سازگار ہونے کے بعد حیاتیاتی ماہرین کے نزدیک ساحلی کچھڑوں میں مختلف اجزاء فطرت کے باہم ملنے سے ایک جاندار ذرہ پیدا ہوا جسے یہ ماہرین (Auto Troph) کا نام دیتے ہیں یہ امیبا (Amoeba) کی طرح کا ایک خلیہ (Cell) تھا جس میں تقسیم و در تقسیم ہونے کی صلاحیت موجود تھی۔ تقسیم کے اس عمل سے، پہلے بافتیں (Tissues)، پھر اعضاء (Organs)، پھر نظام (Systems) اور اس کے بعد ایک جاندار اور اس سے آگے کئی جاندار پیدا ہوئے۔ یوں زندگی کا آغاز ہوا اور کئی ارتقائی مراحل سے گزرنے کے بعد موجودہ اشکال میں پہنچی۔

درج بالا نظریات کے مطابق:

1- زندگی کا آغاز پانی کے اندر کچھڑے ہوا۔

2- زندگی ایک جاندار سے شروع ہوئی۔

یہ نتائج تخلیق حقیقی سے کتنی مماثلت رکھتے ہیں؟ اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

1- انا خلقنہم من طین لازب (صفت- 11)

”بیشک ہم نے ان (انسانوں) کو کچھڑ (چپکتی مٹی) سے پیدا کیا۔“

اور واللہ خلق کل دابة من ماء (نور- 45)

”اور اللہ نے زمین پر ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔“

2- خلقکم من نفس واحدة (زمر- 6)

”اس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔“

سائنسدانوں کا یہ خیال کہ زندگی کا آغاز ایک جاندار سے ہوا تھا حقیقت لگتا ہے۔ تاہم انسان کے ارتقاء کا حیاتیاتی نظریہ ہمارے لیے قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے اس میں انسان کو بن مانس اور بندرد غیرہ بتایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام نسل انسانی کا آغاز حضرت آدم کی تخلیق سے ممکن ہوا تھا۔

نوٹ: چونکہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب کے مطابق یوم حساب و قیامت لازماً روپذیر ہوگا، لہذا جاندار اس قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ یقیناً ایک وقت ایسا وقت آئے گا جب تاریخ کائنات اپنے آپ کو دھرائے گی اور تمام اجرام فلکی تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہر لطف و نسیب دھواں اڑے گا جیسے شروع میں تھا اور شاید یہی قیامت ہوگی۔ اسی بارے میں اللہ فرماتا ہے،

1- اذال السماء الفطوت واذالکواکب انثثرت (انفطار- 1,2)

”جب آسمان پھٹ پڑے گا اور تارے جھڑ جائیں گے۔“

2- فارقہب یوم تاتی السماء بدخان مبین (دخان- 10)

”اس دن کا انتظار کرو جب خلا میں دھواں نمودار ہوگا“

دور جمالت میں جب ان نظریات کا علم تو ایک طرف، تصور اور گمان تک موجود

تھا، ان کا تذکرہ کوئی عام شخص کیسے کر سکتا تھا۔ ان حقائق کے بعد قرآن کی حقانیت کے

بائے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا۔

”بری الذین اوفوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق (سباء- 6)

”اور وہ لوگ جنہیں علم ملا، جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب نے تم

(رسول ﷺ) پر اتارا، وہ سچ ہے۔“

☆☆☆

## بارش کا بر سنا

ہو ایسے کیسے سمندری آبی بخارات کو لے کر سفر کرتی ہیں، بادل کیسے بنتے ہیں اور بارش کیسے بر ستی ہے؟ سائنسدانوں کی نظر میں ان سوالوں کے جواب انیسویں صدی میں معلوم ہوئے لیکن قرآن کا علم رکھنے والے مسلمان ان رازوں سے نزول قرآن کے وقت سے لے کر آگاہ تھے۔ کیونکہ قرآن نے جمالت کے اس دور میں ہی ان حقائق پر سے پردہ اٹھا دیا تھا۔

1۔ واللہ الذی ارسل الريح فتثير سحابا فسقنه الی بلدهمیت (فاطر-9)

”اور اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو (سمندر کی طرف) بھینتا ہے جو آبی بخارات کو ہائیکر

لائی ہیں اور پھر ہم ان سے مُردہ بہتیاں براب کرتے ہیں۔“

2۔ وَهُوَ الَّذِي ارسل الريح بشر ا بين يدي رحمنه و انزلنا من

السماء ماءً طهوراً لئحی به بلدة ميتا و نسقيه مما خلقنا انعاما و انا سی

کثیرا (فرقان-48,49)

”اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت (بارش) کی خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے وہ مُردہ

بستیوں کو زندہ کرنے اور چوپایوں اور انسانوں کو پانی پلانے کے لیے آسمان سے پاک پانی

اتار ہے۔“

3۔ و الذریت ذروا ☆ فا لحملت و قرا ☆ فالجريت يسرا ☆

فالقسمت امرا (ذاریات-41)

”قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھر کر اڑتی ہیں اور بادلوں کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے

زمی سے اور روک ٹوک کے بغیر چلتی ہیں اور اللہ کے حکم سے قطرات باران کو بائتی ہیں۔“

بارش کے برسنے کے یہ عوامل جو ہمارے جدید طبعی علوم میں سو ڈیڑھ سو سال

قبل آئے، ہمارے نبی مکرم ﷺ اللہ کے پیغام اور تنزیل کے علاوہ کیسے جان سکتے تھے؟

اللہ الذی انزل الکتب بالحق و المیزان (شوری-17)

”اللہ ہی تو ہے جس نے ایک متعین میزان اور حق کے ساتھ یہ کتاب (قرآن)

اتاری۔“

☆☆☆

## دو سمندر

فرمان باری تعالیٰ ہے

موج البحرین يلتقيان بينهما بوزخ لا يبغيان (رحمان-19,20)  
 ”اللہ نے (تلخ و شیریں) دو سمندر رواں کیے جو ایک دوسرے سے بظاہر ملے ہوئے  
 ہیں پر ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو ان کو ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتا۔“

حاتم یالار قسطنطنیہ میں کہ فرانسسی سائنسدان ”کورسٹیو“ (CORSTEAU)،  
 جو سمندری تحقیقات میں عالمی شہرت رکھتے ہیں، نے دریافت کیا کہ بحیرہ روم اور  
 بحر اوقیانوس کی بیابانی اور حیاتیاتی لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور ان کے ملنے  
 کے مقام پر بھی جبل طارق (جبرالٹر) کی ایک باڑھ درمیان میں موجود ہے جو ان کو آپس میں  
 قطعاً سلاط نہیں دیتی۔

اس تحقیق کے بعد جب کورسٹیو کو مندرجہ بالا آیت مبارکہ کا علم ہوا تو وہ عظمت  
 قرآن کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔

☆☆☆

## چھوٹے اور بڑے ذرات

کائنات کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو اپنی آزادانہ حیثیت برقرار نہ رکھ سکے، ایٹم  
 کہلاتا ہے اور یہی ایٹم وہ پیادہ اٹائی ہے جس سے اس کائنات کی ترتیب و ترکیب عمل میں  
 آئی گئی یعنی کائنات کی ہر شے ایٹموں کے باہم ملنے سے وجود میں آئی۔ اگرچہ اس کے کئی  
 ایک ذرات ہوتے ہیں تاہم زیادہ مشہور ذرات تین ہیں۔

1۔ الیکٹران

2۔ پروٹان

3۔ نیوٹران



(ایٹم کا ماڈل)

ایلیکٹران پروٹان کی نسبت 1836 گنا چھوٹا ہوتا ہے یوں اگر ایٹم کو کائنات کا چھوٹا  
 ترین ذرہ مانا جائے تو الیکٹران ایٹم کا چھوٹا ترین ذرہ قرار پاتا ہے اور یقین مانتے کہ کائنات کا  
 خالق و مالک ان ایٹموں، الیکٹرانوں اور الیکٹرانوں کے اندر موجود جلوؤں تک سے واقف  
 ہے۔

تبھی تو وہ ارشاد فرماتا ہے،

وما يغرب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر  
 من ذلك ولا اكبر الا في كنب مبین (یونس-61)

”تمہارے رب کی نظر سے زمین اور آسمانوں کا کوئی ذرہ، ذرے سے بھی چھوٹا اور بڑا  
 کچھ بھی نماں نہیں اور سب کچھ اس کی واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔“

اگر اس آیت کی تفسیر پر غور کیا جائے تو ذرے سے مراد ایٹم، اس سے بھی چھوٹا ذرہ الیکٹران اور الیکٹران سے بڑا پروٹان ہی نظر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر اور گمرانی سے الیکٹران بھی پوشیدہ نہیں بلکہ الیکٹران کے اندر موجود جلوؤں سے بھی صرف وہی واقف ہے اسی لیے تو واصف علی واصف لکھتے ہیں

”ایک طرف تو اللہ انسان کے تصور سے بھی بڑے ستارے پیدا فرماتا ہے اور کبھی تو اتنی باریکیوں میں تخلیق فرماتا ہے کہ انسانی نظر کی مجال نہیں کہ وہ الیکٹران کے اندر کے جلوؤں کو دیکھ سکے“

ذات باری تعالیٰ اپنے بیگنی علم کے تحت اس بات سے آگاہ تھی کہ انسان اس کے عطا کردہ علوم کی وجہ سے ان چھوٹے ذرات کا کھوج لگانے میں کامیاب ہوئے گا۔ اس لیے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں بہت پہلے اس بات کا ذکر فرمادیا کہ اس کی آخری کتاب کو بلا جوں و چراں الہامی تسلیم کر لیا جائے۔

خدا ایک عام امی عربی ایسا انکشاف قطعی نہیں کر سکتا تھا جو ہمارے علم میں سوا ہزار

سال بعد آیا۔

كذلك نفصل الايت لقوم يتفكرون (یونس۔ 24)

”اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھولتے ہیں (تفصیل بیان کرتے ہیں)، ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔“

☆☆☆

## کمال تناسب

کیمیاء دانوں کے نزدیک مختلف مرکبات، مختلف عناصر کے ایٹموں کی تعداد میں

مقررہ و معینہ تناسب سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ کائنات میں ہزاروں بلکہ لاکھوں مرکبات موجود ہیں جنہیں قدرت الہی نے ایک مخصوص اندازے سے تخلیق فرمایا ہے۔ مثلاً پانی (H<sub>2</sub>O) میں ہائیڈروجن کے ہر دو ایٹم آکسیجن کے ہر ایک ایٹم سے ملاپ کرتے ہیں اور اگر یہ باہمی ملاپ اسی تناسب سے وجود میں نہ آئے تو پانی کی تخلیق ناممکن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح

کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس (CO<sub>2</sub>) میں کاربن کا ہر ایٹم آکسیجن کے دو ایٹموں سے جڑا ہوتا ہے۔

اگر اس تناسب میں کمی بیشی ہو جائے تو یہ گیس حاصل کرنا ممکن نہ ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو پودے سانس نہ لے سکیں اور اگر پودے سانس لے کر آکسیجن خارج نہ کریں تو حیوانات کی زندگی ممکن نہ رہے۔ ثابت ہوا کہ یہ سب کچھ محض اتفاق سے نہیں ہو سکتا۔ اس پر قرآن پاک ہی

ہماری راہنمائی کرتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اوزن و مقدار اور تناسب کا عظیم ترین عالم ہے۔

1- و ان من شی الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم (حجر۔ 21)

”ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم معین اندازے کے بغیر نہیں اتارتے۔“

2- والارض مدد نها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شی

موزون (حجر۔ 19)

”ہم نے زمین پھنائی، اس پر پھاڑ ڈالے اور ہر چیز ایک مخصوص اندازے سے پیدا کی۔“

## رحمتِ خداوندی

رحمتِ خداوندی پر غور کریں کہ ہماری زمین میں موجود کثرتِ ثقل نہ تو اتنی زیادہ ہے کہ پاؤں اٹھانا دشوار ہو جائے اور نہ ہی اتنی کم کہ ہم فضا میں اڑتے پھریں۔ ماہرینِ فلکیات کے نزدیک اگر ہماری زمین کی حرکت کی رفتار زیادہ ہو جائے تو کثرتِ ثقل کم ہو جائے اور اگر کم ہو جائے تو کثرتِ ثقل بڑھ جائے لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟

اس کا جواب وحی باری تعالیٰ میں ہی ملتا ہے کہ

انا كل شی خلقناه بقدر (قر۔ 49)

”ہم نے کائنات کی ہر شے کو ایک اندازے سے پیدا کیا۔“

☆☆☆

## گوارہ اور روشنی

ماہرینِ ارضیات (Geologists) کے نزدیک، زمین ابتدا میں سورج سے الگ رہنے والا آگ کا ایک گولا (کرہ) تھی جس کو بعد میں بارشوں کے ایک نہ تھمنے والے سلسلے نے ٹھنڈا کیا جس سے زمین پر سمندر قائم ہوئے۔ پانی کے انجذاب سے زمین کے بطن میں موجود مواد اچھل کر باہر آ گیا اور ٹھنڈے ہونے پر پہاڑوں کی شکل اختیار کر لی۔ پانی، زلزلوں کی شکست و رسخت اور وقت اور زمانے کی تبدیلیوں نے آخر کار زمین کو زندگی کے قابل بنایا اور پھر جا کر کہیں زندگی کا آغاز ہوا۔

غور طلب بات یہ ہے کہ کیا یہ سب لوازماتِ زندگی محض اتفاق سے وجود میں آئے؟ اگر ایسا ہوا تو صرف اچھے اور حسین اتفاقات ہی کیسے پیش آئے اور برے اتفاقات کو چھیڑا تک نہیں گیا، ہر چیز ایسے رونما ہوئی کہ ابتدائے زندگی کو اس آئی۔ وہ کون ذات تھی ہے جس نے تمام حسین ہمدوست و ساماں کئے؟

1۔ الذی جعل لکم الارض مہدا (ط۔ 53)

”اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گوارہ بنایا (یعنی زندگی کے قابل

بنایا)۔“

2۔ الذی جعل لکم الارض فراشا (قر۔ 22)

”وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش (چھوٹا) بنایا۔“

3- هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً (قرہ-29)

”وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا جو زمین پر موجود ہے۔“

سائنسدانوں کے مطابق اگر زمین پر پہاڑوں کا وزن نہ ہو تو یہ اپنے مدار سے ہٹ پڑے اور اس پر ہر وقت جھٹکے محسوس ہوتے رہیں۔ پہاڑوں کی اہمیت کو ہم نے دور حاضر میں جانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے کی تزیل ”قرآن پاک“ میں اس حقیقت کا انکشاف فرمادیا تھا جو کہ قرآن کے الہامی اور ابدی ہونے کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔

ارشاد ہوا۔

والقی فی الارض رواسی ان تمید بکم۔ (نحل-15)

”ہم نے زمین پر پہاڑ ڈال دیئے تاکہ یہ تمہیں لے کر نہ کاپے نہ بھاگے۔“

ہماری زمین ہمہ وقت دو طرح کی حرکت میں مصروف رہتی ہے ایک اپنے مرکز یا محور کے گرد اور دوسری سورج کے گرد۔ اس کے کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے کے باوجود ہمیں کہیں کوئی ہچکولہ تک محسوس نہیں ہوتا۔ اس حیران کن توازن پر سر جیمز جیمز پکاراٹھے تھے۔

"The trembling Universe must have been balanced with unthinkable Precision"

”کانپتی ہوئی کائنات کو یقیناً کسی ناقابل فہم نظم و ضبط کے تحت متوازن کیا گیا ہے۔“

ظاہر ہے کہ کائنات پر توازن کا یہ نظام لاگو کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، سوائے

کے خالق کے۔ (تفصیلاً آگے ”فکر کائنات“ میں پڑھیں)۔

الم تعلم ان اللہ له ملک السموت والارض (قرہ-107)

”کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اسی کے پاس ہے۔“

طبیعیاتی ماہرین کے اندازے کے مطابق پوری دنیا میں ہر سال چھٹانگ بھر بجلی استعمال ہوتی ہے جس کی پیداوار پر ہم اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو روشنی ہم ایک دن میں سورج سے حاصل کرتے ہیں اس کا وزن (4480) من ہوتا ہے اور ہم بغیر پانی کی ادائیگی کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے۔

فباى الآ۔ ربکما تکذبن (رحمن-13)

”تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟“

ان ماہرین کے خیال میں سورج ہمیں مزید کم از کم دس ارب سال تک ایسی ہی روشنی دے سکتا ہے۔ اور ایسے ہی تقریباً پندرہ کروڑ اور سورج کائنات میں سرگرم عمل ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی توانائی اور حرارت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی؟ غور کرنے پر یہی سوچتا ہے کہ اتنی وسیع کائنات جس میں اتنے شموس جو گردش ہیں اور حیرت انگیز طور پر نہ ختم ہونے والی توانائی کے اخراج میں مصروف ہیں، یقیناً کسی عظیم ترین خالق اور موق الفطرت حکیم اور موجد کی تخلیق ہی ہو سکتی ہے۔ اور وہ خالق صرف اور صرف اللہ ہی کی بزرگ و برتر ذات ہے۔ اسی لیے تو اپنی کتاب میں بار بار فرماتا ہے

هو الذی خلق السموت والارض (حدید-4)

”وہ اللہ ہی ہے جس نے تمام آسمان اور زمین پیدا کیے۔“

## اللہ کا ایک دن

فرمان باری تعالیٰ ہے۔

انا بوما عند ربك كالف سنته مما تعدون (حج-47)

”بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جو تمہارے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔“

ایک عام فہم شخص کو یہ ممکن نظر نہیں آتا تاہم ایسا بالکل ہو سکتا ہے۔ اللہ تو صرف ارادہ

فرمائے تو ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم اس کو فلکیاتی اصولوں کے تحت بیان کرتے ہیں۔

ڈاکٹر شامی کے نزدیک فضا میں ایک ایسا مرکز نور ہے جس کے گرد ایسے کرے اور سورج

چکر کاٹ رہے ہیں جن کا ایک چکر ہمارے تیس کروڑ سالوں میں مکمل ہوتا ہے۔ یعنی ان کا ایک

سال ہمارے تیس کروڑ سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اسٹیجیٹر کے نظریے کے مطابق یہ


مرکز نور اللہ کا عرش ہی ہو سکتا ہے۔ یہ تو پھر بھی دور کی بات ہے ہم اپنے ہی نظام شمسی میں موجود

مختلف سیاروں کے سالوں کا مطالعہ کریں تو ہر سیارے کے دن اور سال میں واضح فرق نظر

آتا ہے۔

مازل

نظام شمسی



عطارد کا ایک سال ہمارے 88 دن، زہرہ کا

225 دن، زمین کا 365 دن، مریخ کا 1 سال

322 دن، مشتری کا 11 سال، زحل کا

29 سال 162 دن، یورینس کا 84 سال

نیپچون کا 165 سال اور پلوٹو کا 1 سال

ہمارے 248 سال کے برابر ہوتا ہے۔

دن کے نزدیک ترین سیارے زہرہ کا ایک سال ہمارے 88 دن کے برابر۔ اور دور ترین

سیارے پلوٹو کا ہمارے ایک سال ہمارے سالوں کے برابر ہے تو اسی طرح اللہ کا ایک دن بھی

ہمارے ایک ہزار سال کے برابر ہو گا۔ غور کریں کہ امی نبی ﷺ خود ایسا دعویٰ کیے کر سکتے

تھے جب لوگوں کی عقلیں اس طرح کا فرق محسوس کرنے کا ادراک نہیں رکھتی تھیں۔ یقیناً

ان اسی ذات کی تشریح ہے جو سب چیزوں سے ازل سے باخبر ہے۔

☆☆☆

## اللہ سب کچھ سنتا ہے

نظر یہ اسواج اشیری کے تحت اشیری لہروں کی بدولت ہزار ہا میل دور کی باتیں بغیر کسی تار یا واسطے کے سنی جاسکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کائنات کی ہر شے کی طرح یہ اشیر بھی اللہ کی قدرت میں ہے یوں ہر آہٹ، آواز یا حرکت اگر اشیر میں جنبش پیدا کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے اور اس کی سماعت و بصیرت سے کچھ نہال نہیں۔ یہ تو ہیں ماہرین اشیر کے تاثرات، اب دیکھتے ہیں اللہ کی کتاب کیا فرماتی ہے۔

ان اللہ سمیع بصیر (مجادلہ-1)

”بے شک اللہ سب دیکھتا اور سنتا ہے۔“

بلکہ،

تعلم ما توسوس بہ نفسه (مدیر البیان)

”اللہ انسان کے دوسے تک سے باخبر ہے۔“

امپریل کالج آف سائنس، لنڈن کے پروفیسر مسٹر ولیم (Mr. William)

انسانی کان کی ساخت اور کام پر مطالعہ کرتے ہوئے حیرت سے چیخ اٹھے تھے۔

”He who planted ears, shall he not hear?“

”جس نے کان پیدا کیے، کیا وہ سنتا نہ ہوگا؟“

حاصل یہ ہوا کہ تحقیقات و علوم کے بڑھنے کے ساتھ قرآن کی حقانیت

یہ سے مزید تر داضع ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ایسی شہادتیں مہیا کرے گا جو ثابت کر دیں گی کہ یہ کتاب اسی ذات کی تنزیل ہے

☆☆☆

## عظیم ترین حساب دان

یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ تمام کائنات کی ترکیب و تخلیق ایٹموں اور عناصر سے ہوئی۔ یہ ترکیب اور اس کا تحفظ کرنا نہایت پیچیدہ کام ہے۔ تمام نباتات و حیوانات کی کرب آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کاربن اور چند نمکیات سے ہوئی ہے۔ غور کریں کہ تمام جانداروں کی تخلیق ان ہی عناصر سے ہوئی ہے لیکن ان تمام عناصر کے تناسب کے اختلاف سے جانداروں کی الگ الگ اقسام ترتیب پاتی ہیں۔ نباتات کی تقریباً 15 لاکھ اور حیوانات کی تقریباً 3 لاکھ اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ اگر کائنات میں موجود عناصر کو ایک خاص حساب و کتاب اور نگرانی کے ذریعے پابند نہ کیا جائے تو یہ عناصر تحلیل ہو کر اپنے اپنے مراکز کی طرف بھاگنا شروع کر دیں اور دنیا میں صرف دھواں ہی دھواں باقی رہ جائے۔ عناصر کے حساب کتاب کے ذریعے سے رنگ برنگی کائنات کی تشکیل و ترکیب اللہ تعالیٰ کا حیرت انگیز معجزہ اور اس کی حساب دہنی کا ایمان افروز ثبوت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔۔

الاله الحكيم وهو اسرع الحاسبين (انعام-62)

”حکم صرف اسی کا چلتا ہے اور وہ بہت تیز حساب کرنے والا ہے۔“

## درخت سے آگ

لکڑیاں اور معدنی کوئلہ اجودھن کا ایک انتہائی اہم ذریعہ ہیں۔ بلکہ دور جدید سے قبل تو صرف انہی ذرائع سے آگ و حرارت حاصل کی جاتی تھی۔ معدنی کوئلہ زمین کی تہ میں کیسے وجود میں آیا؟ سائنسدان اس بارے میں درج ذیل نتائج پر متفق ہیں۔

آج سے ہزاروں برس قبل زمین پر آبادی کم اور گھنے جنگلات زیادہ تھے۔ ایک خاص عمر کے بعد درخت قدرتی طور پر ہی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹ پھوٹ کر اس عمل کے چلنے سے لکڑیوں کے اجزاء اکٹھے ہوتے رہے اور بعد کے زلزلوں سے اوپر والی مٹی کی تہ کے نیچے جانے اور نیچے والی کے اوپر آجانے سے یہ اجزاء دب گئے۔ زمین کی حرارت میں گٹنے سڑنے اور بارش کے پانی سے ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ لکڑیاں کوئلے میں تبدیل ہو گئیں۔ اور اب صدیوں سے پلووراجندھن استعمال ہو رہی ہیں (برطانیچیکیمسٹرانسائیکلو پیڈیا۔ لندن)

الذی جعل لکم من الشجر الا خضو نارا فاذا انتم منه توقدون (سین۔ 80)  
”اللہ نے تمہارے لیے سبز درختوں سے آگ پیدا کی جس کو تم جلاتے ہو، جلاتے رہو گے۔“

علماء سائنس نے عہد حاضر میں یہ ثابت کیا کہ معدنی کوئلہ جو کہ صدیوں سے ایندھن کا ایک اہم ترین وسیلہ ہے، عام درختوں ہی کی پیداوار ہے۔ اسی لئے تو اللہ فرماتا ہے۔

بل هو آیت بینت فی صدور الذین اوتوا العلم (عنکبوت۔ 49)  
”بلکہ یہ قرآنی آیات اہل علم کے سینوں میں کھلی نشانیاں ہیں۔“

## فولاد

لوہا یا فولاد جدید اور قدیم دونوں زمانوں کی ایجادات میں بنیادی اہمیت و حیثیت کا حامل رہا ہے۔ گھوڑے کی نعل سے لیکر ریل کی پٹریوں، تلواروں سے لے کر اسٹیمکرافٹ، ہسٹول کی گولی کے خول سے لے کر ایٹم بم کے خول، سوئی سے لے کر بڑی مین فیکٹریوں، مہینیقوں سے لیکر میزائلوں اور جہازوں تک ہر جگہ فولاد ہی فولاد دکھائی دیتا ہے۔ الغرض اسے زیادہ مفید و صحت مند تو تھی اور نہ ہی ہو سکتی ہے اور یہی بات تو میں اللہ کے پیغام پر زمانہ جمالت کے نبی امی ﷺ نے بتائی تھی،

و انزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس (حدید۔ 25)

”اور ہم نے فولاد اتارا جس میں زبردست ہیبت اور لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہے۔“

خود مشاہدہ کریں کہ آج وہ اقوام جو فولاد کے استعمال کا علم جانتے ہوئے

اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، زندگی کے ہر میدان میں آگے ہیں۔ ہم مسلمان جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت سب سے پہلے واضح کر دی تھی، ہمیشہ کی طرح احکامات الہی کی تعمیل میں

نہایت کے مرتکب ہوئے اور فولاد کے استعمال کے علم کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ نتیجتاً ہر طرف سے مظلوب نظر آتے ہیں۔ کیا یہ درج بالا آیت پر عدم تدرک کا نتیجہ نہیں ہے؟

لناب انزلنا الیک مبارک لیدیر و آیاتہ ولینذکر اولو الالباب (ص۔ 29)

”(قرآن) ایک مہرک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر

دیکھیں اور سمجھیں لوگ ہی نبیحت حاصل کریں گے۔“

## مختلف جانور

عام مشاہدہ ہے کہ تمام جانور ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی لاکھوں اقسام تخلیق فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه و منهم من يمشى على رجليه و منهم من يمشى على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شىء قدير (نور-45)

"اور اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا۔ ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر۔ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے پیٹک وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔"

توح کی حیاتیاتی سائنس اس بات پر ہند ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں ماہرین حیاتیات حقیقت تک پہنچ چکے ہیں۔

سبز یوں اور پھولوں پر بھنھنجانے والی بعض مکھیاں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ اگر انکو پکڑ کر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو انڈے کی طرح پھٹ پڑتی ہیں۔ تب خیال آتا ہے کہ اے اللہ! اس قدر چھوٹی مکھی میں تو نے معدہ، جگر، دل، دماغ، استریاں، آنکھیں، پیچھڑے و کان وغیرہ کیسے بنائے ہوں گے۔

پر حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم کم فہم انسان ہی سوچتے ہیں، اللہ کیلئے ایسا کرنا کچھ مسئلہ نہیں کہ وہ اتنی چھوٹی مکھی بنائے یا وہیل مچھلی جتنے عظیم الجثہ جانور۔ کیونکہ اس ذات نے تو صرف ارادہ فرمایا ہے اور ارادہ فرماتے ہی اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

-----سبحان اللہ-----

اللہ کے بارے میں اتنی معلومات ہم تک اسی کی کتاب قرآن کی وجہ سے پہنچیں جو اس نے ہمارے رسول حضرت محمد ﷺ پر نازل فرمائی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## حیرت انگیز کارکن

یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ نباتات اور حیوانات ایک دوسرے کی زندگی کیلئے لازم و ملزوم ہیں کیونکہ پودے جو آکسیجن خارج کرتے ہیں، اس سے ہم اور دیگر جانور سانس لیتے ہیں جبکہ ہم کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں جس کو پودے تنفس کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ الغرض ان دو میں سے کسی ایک کی عدم موجودگی تمام زندگی کا خاتمہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لئے فصلوں، پھلوں اور دیگر اجناس جیسے کافی، شکر، چئی، شربت و شہد وغیرہ کے حصول کے لیے بھی پودوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ پاک و بزرگ ذات باری تعالیٰ ہماری ان ضروریات سے غمخوئی آگاہ ہے اور تمام ہمد دست اسی کے کیے دھرے ہیں۔

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانَ اِلَى طَعَامِهِ \* اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا \* ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَاقًا \* فَانْبَتْنَا فِيهَا حَبَابًا \* وَ عَنَابًا وَ قَضْبًا \* وَ زَيْتُونًا وَ نَخْلًا \* وَ حُدَاقًا غَلْبًا \* وَفَاكِهًا \* وَ اَبَا \* مَنَّا لَكُمْ وَ لَا نَعْمَ لَكُمْ (نجم-24-32)

"انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف دیکھے۔ ہم نے پستے بارش اتاری پھر زمین کا پینت پیر اور

اس میں سے لہجہ، انگور، چارہ، زیتون، کھجور، گھنے باغات، ترکاری اور پھل میوے پیدا کیے تاکہ تمہیں اور تمہارے چوپایوں کو فائدہ پہنچے۔“

### بیکٹیریا

پودوں کی جڑوں میں اللہ تعالیٰ نے کر دڑوں کے حساب سے ایسے خوردبینی جاندار پیدا فرمائے ہیں جو نائٹروجن کو بطور خوراک استعمال کرنے کے بعد ایسا مواد خارج کرتے ہیں جس میں نائٹروجن کی مقدار انتہائی زیادہ ہوتی ہے اور یہی نائٹروجن پودوں کی زندگی کا عظیم جزو حیات ہے۔ اس کی غیر موجودگی پودوں کی زندگی کو ناممکن بنا دیتی ہے۔ ان کو پھٹیڑ یا آئنا جاتا ہے اور اگر یہ نظر آنے والے ہوتے تو بیونیوں اور دیگر حشرات کا شکار ہو جاتے اور زمین کی زرخیزی اور توڑ پھوڑ کا کام سرانجام نہ دے سکتے۔ لیکن اسی حکمت کے تحت اللہ نے اس مخلوق کو چھوٹا بنایا۔ اور اشرف المخلوقات انسان کو اس حقیر مخلوق کا محتاج بنا ڈالا۔ زمین کے ہر ایکٹر میں ان پھٹیڑ یا کا کام روزانہ بارہ آدمیوں کے کام کے برابر ہوتا ہے۔ غور کریں کہ حقیقت میں کھیتی باڑی ہم انسان کرتے ہیں یا اللہ، اسی لئے تو ارشاد ہوا،

اَفْرِءْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيُجْعَلَنَّ حِطٰۤا مَآ فِضْلَتِيْمْ تَفْكُهُوْنَ (واقفہ - 63-65)

”کھیتی باڑی کرنے والو! بتاؤ کہ کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا کہ ہم۔ اگر ہم چاہیں تو تمہاری کھیتوں کو برباد کر دیں اور تمہاری ہی امانتے رو جاؤ۔“



### جدید سواریاں

نزول قرآن کے وقت جو چوپائے بار برداری اور سواری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ وہ چار جانور اونٹ، گدھا، فخر، اور گھوڑے تھے۔ ان چاروں جانوروں کا ذکر قرآن میں صراحتاً، جبکہ دور حاضر کی سواریوں کا تذکرہ اجمالاً ملتا ہے۔

اِنَّ رَبَّكُمْ لَرٰٓؤُفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٦﴾ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرَ لَتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً وَّيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (نحل - 837)

”بے شک تمہارا رب بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے تمہارے لیے گھوڑے، فخر اور گدھے پیدا فرمائے کہ تمہاری زینت بن سکیں اور بہت سی ایسی سواریاں پیدا کرے گا جن کو تم لوگ نہیں جانتے۔“

آیات کے آخری حصے میں رب ذوالجلال نے اس پیشگوئی کا انکشاف فرمایا کہ مستقبل میں وہ ایسی سواریاں پیدا فرمائے گا جن کا نزول قرآن کے وقت کے لوگوں کو قطعی علم نہیں۔ اپنے اس وعدے کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار اسباب فراہم کیے، جیسے، ایسے ذہین و قسین لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے بے شمار دریافتیں اور ایجادات کیں، ان ایجادات کے لیے ضروری معدنیات، دھاتیں اور دیگر لوازمات تخلیق فرمائے۔ اور جن لوگوں سے اس نے ایسے کام لینے تھے، ان کے لیے ایسے حالات و واقعات مقدر فرمائے

کہ اُن کی بدولت آج ہم موٹر سائیکلوں، کاروں، ہوائی جہازوں، بحری جہازوں اور ریوں جیسی جدید سوارپوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور مستقبل میں جگہ جگہ جلی کی ٹریوں، شمسی توانائی سے چلنے والی کاروں اور ان کے علاوہ پتہ نہیں کیسی سوارپاں موجود ہوا کریں گی۔ سب اس خالق کی توفیق و تخلیق اسباب کی وجہ سے ممکن ہوا جس نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## سائنسی علوم اور قرآن

ہم اس بات سے غافل واقف ہیں کہ قرآن کا موضوع انسان ہے جس کی ہدایت و راہنمائی کیلئے نازل فرمایا گیا ہے۔ اس میں زیادہ تر عقائد، عبادات اور قوانین و ضوابط سے متعلق بحث کی گئی ہے۔ اس طرح قرآن نہ تو سائنسی نظریات کی کتاب ہے اور نہ ہی بیباک، فلکیات، طبیعیات یا طب کی کتاب بننے کیلئے نازل ہوا۔ یہ پوری زندگی کیلئے ایک مکمل نظام ہے۔ جہاں تک سائنسی و مادی علوم کا تعلق ہے تو یہ کام انسانی عقل، مفروضات، تجربات، نظریات اور ایجادات کے سپرد کر دیتا ہے۔ انسانی عقل اور سائنس کی رسائی ایک حد تک ہوتی ہے یہی وجہ ہے کبھی کوئی نظریہ مقبول ہوتا ہے تو کبھی رد قرار پاتا ہے، اسی طرح آج رد ہو جانے والا نظریہ کل مقبول بھی ہو سکتا ہے۔ ہر چیز میں علوم کی ترقی کے باعث ترمیم، اضافہ و تبدیلی کی گنجائش باقی رہتی ہے جبکہ قرآن کے احکامات اعلیٰ اور غیر متزلزل ہیں۔ دیگر سائنس صرف مادہ جبکہ علوم قرآن مادہ اور روح دونوں کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ یوں سائنسی علوم کی وسعت قرآنی علوم کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر یا انتہائی کم ہے۔

اس تفریق اور حقیقت کے باوجود بھی اگر قرآن پاک میں ایسے انکشافات بیان فرمائے گئے ہیں جن کا کھوج لگانے کیلئے انسانی عقل اور سائنسی علماء کو ہزاروں سال تک دو دو کرنی پڑی تو قرآن کے وحی منجانب خالق حقیقی ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔

حق یہی ہے کہ جو جتنا زیادہ کائناتی علوم و قرآن کا مطالعہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا۔ (تفصیلاً جاننے کیلئے مطالعہ کائنات پڑھیے)۔



## مطالعہ کائنات

کائنات کے مطالعہ و فکر سے قادر ترین ہستی یعنی وجود باری تعالیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ جوں جوں انسان کائناتی علوم میں کھوتا جاتا ہے، اللہ سے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے کیونکہ کائنات کی ہر چیز اور ہر نظام اس بزرگ و بزرگوار ہستی کی تخلیق کا منفرد نمونہ ہے۔ غیر مسلموں اور کم فہم مسلمانوں کا یہ قول کہ اسلام، قرآن اور مولوی حضرات صرف ایمان اور عبادت وغیرہ پر زور دیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان جدید علوم کائنات سے شامانہ ہونے پر دوسری اقوام سے پیچھے ہیں، کس حد تک درست ہے اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھتے ہیں جو تقریباً ہر صفحہ قرآن میں کائنات پر غور و فکر اور تدبر و علم کا حکم فرماتا ہے۔

محمد احمد العمرادی العصری رقمطراز ہیں،

”قرآن کی کل چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ (6666) آیات ہیں جن میں سے سات سو چھین (756) آیات میں علوم فطرت و کائنات پر غور و فکر کا واضح حکم ملتا ہے۔“

چند کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔

”زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے وہ غافلوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔“ (یوسف-105)

”کیا یہ لوگ زمین و آسمانوں کی بادشاہت اور خدا کی تخلیق پر غور نہیں کرتے شاید ان کی سوت قریب آگئی ہے“ (اعراف-185)

”کیا یہ ان باتوں پر غور نہیں کرتے کہ اونٹ کیسے بنا، آسمان کیسے تخلیق کیے گئے، پہاڑ کیونکر ڈالے گئے اور زمین کس لئے بچھائی گئی۔“ (غاشیہ-17-20)

”اے رسول ﷺ! اپنے پیروکاروں کو حکم دیجئے کہ گھوم پھر کر اللہ کی تخلیقات کا کھوج لگائیں۔“ (عنکبوت-20)

☆ ”اللہ کی تمام تخلیقات حقیقت پر مبنی ہیں اور وہ ان کو اصل عقل کیلئے بیان کرتا ہے۔“ (یونس-5)

☆ ”ارض و سماء کی پیدائش و دن و رات کے فرق میں عقل والوں کیلئے سبق ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے سوتے ان تخلیقات پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ! تو نے بے مقصد کچھ نہیں بنایا۔“ (ال عمران-190-191)

☆ ”(اے دیکھنے والے) وہی اللہ ہے جس نے سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے۔ کیا تو اس کی تخلیقات میں کوئی نقص پاتا ہے؟ پھر آنکھ اٹھا، تجھے کوئی فرق نظر آتا ہے، پھر دیکھ پر تیری نظر تھکی ماندی ناکام لوٹ آئے گی (یعنی اس کی پیدا کردہ چیزوں میں نقص نہ مل سکے گا)۔“ (ملک-3-4)

اللہ سبحانہ کائنات کے علوم پر غور و فکر کرنے والوں کو اہل عقل و علم قرار دیا ہے۔ جیسے بار بار فرمایا۔

☆۔۔۔ آیات لقوم یعقلون (یہ نشانیاں اہل عقل کے لیے ہیں)۔

☆۔۔۔ آیات لقوم یؤمنون (اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں)۔

☆۔۔۔ لایات للعالمین (علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں) اور

☆۔۔۔ لایہ لقوم یتفکرون (فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں) وغیرہ۔

ثامت ہوا کہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو بار بار فکر و غور کائنات کی دعوت دیتی ہے۔ اگر ہم لوگ آپ پر ایسی دعوت کی وضاحت نہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں یہ کچھ موجود نہ ہے۔

کوئی انسانی ذات اپنی کتاب میں ایسے دعوے نہیں کر سکتی لیکن وہ خالق و مالک ذات اس لئے اس کائنات کے مطالعہ پر اصرار کر رہی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ جس قدر کائنات کے علوم ترقی کریں گے، ان کی کتاب کی آیات اسی قدر کھلتی رہیں گی اور اس کی کتاب کی حقانیت اور تفسیر ظاہر ہوتی رہے گی اسی لیے تو واصف علی واصف لکھتے ہیں،

”قرآن میں کائنات کا تذکرہ ہے اور کائنات میں قرآن کی تفسیر و تفسیم۔“

اور ان نشانوں اور معجزات کے کے باوجود بھی جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے بارے میں کہتے ہیں،

”کافر اور مومن میں یہ فرق ہے کہ کافر معجزے کے بعد بھی نہیں مانتا اور مومن

کے بغیر بھی مانتا ہے“

جن لوگوں نے کائنات پر تفکر کیا اور حق کی کچھ حد کو پایا۔ طوالت کے کے پیش

ان میں سے چند کا ذکر درج ذیل ہے

جرمنی کے مشہور مفکر اور سائنسدان آئن سٹائن کہتے ہیں،

"The Universe is ruled by a Mind and whether it be the mind of mathematician or of an artist or of a poet or all of them. It is the one reality which gives meaning to existence, enriches our daily task, encourages our hopes and energizes us with faith wherever knowledge fails".

کائنات پر ایک زبردست دماغ حکومت کر رہا ہے، اس سے عجب نہیں کہ وہ دماغ ہی ریاضی دان کا ہے یا کسی مصور کا، کسی شاعر کا ہے یا ان سب کا، لیکن یہ ایک واحد حقیقت ہے جو ہماری زندگی کو پر معنی بناتی ہے، ہماری امیدوں کو زندہ رکھتی ہے اور ہمیں اس وقت بھی توانائی بخشتی ہے جب ہمارا علم کسی معاملے میں ناکام ہو جاتا ہے۔“

مزید لکھتے ہیں،

"He who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead and his eyes are closed."

فرانسس تھا جس لکھتا ہے،

"All things by immortal power near and far, hiddenly to  
each other linked."

ہم تو سب اور دور کی چیزوں کو ایک نہ مننے والی طاقت نے خفیہ طریقے سے ایک دوسرے  
سے جوڑ رکھا ہے۔

پروفیسر ڈیوڈ فریزر ایک مقام پر کہتے ہیں،

"We hardly know which to admire the more, the Mind  
that arranged the nature or the mind which interreted"

"ہم مشکل ہی جانتے ہیں کہ کسی کی زیادہ تعریف کریں، اس (اللہ) کی جس نے

طبیعت و فطرت کو ترتیب دیا یا اس کو جو اس کی تشریح کرتا ہے (اہل علم)۔"

سر جیمز جینز نے کہا،

"The universe looks like a great thought than a great  
machine."

"یہ کائنات کوئی بڑی مشین نہیں بلکہ ایک انتہائی عظیم خیال محسوس ہوتی ہے۔"

خالق کا اس کائنات کو پیدا کرنا اور اس کے کرداروں عجیب و غریب نظام چلانا

"نہیں" کو اتنا بھایا کہ وہ حیرت سے کچھ ایسے بڑبڑاٹھا،

"What marvellous imagination God almighty hath?"

"وہ شخص جو جہاں (کائنات) میں تعجب کیلئے نہیں ٹھہرتا، اس پر ڈرتا نہیں اور اس

میں لگن نہیں ہوتا تو وہ ایسا ہے جیسے مر گیا ہو اور اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہوں۔"

آئن سٹائن کا یہ قول تو درج ذیل آیت کا ترجمہ محسوس ہوتا ہے۔

اولم ينظر و في ملكوت السموت ولارض وما خلق الله من شىء و ان  
عسى ان يكون قد قترت اجلهم (اعراف-185)

"کیا یہ لوگ زمین، آسمانوں اور اللہ کی دیگر پیدا شدہ چیزوں پر غور نہیں کرتے؟ شاید ان

کی موت قریب آگئی ہے۔"

ایک مغربی عالم لکھتا ہے،

"The Idea of Mind behind and Mind within, seems as  
rational and working hypothesis as any".

"یہ خیال کہ ایک دماغ کائنات کے اندر اور باہر مصروف عمل ہے، ہر چیز کی طرح

معقول اور قابل یقین لگتا ہے۔"

پروفیسر میکرائڈر قطر از ہیں،

"Can any one seriously suggest that this directing and  
regulating power originated in chance encounter of  
atoms? Can the stream rise higher than fountain?"

"کیا کوئی شخص سنجیدگی سے یہ خیال کر سکتا ہے کہ کائنات میں یہ نظم و ضبط ایٹموں کی اتفاقیہ

آمیزش سے ہی پیدا ہو گیا؟ کیا کوئی ندی اپنے بنیادی چشمے کی سطح سے بڑھ کر اونچی ہو سکتی ہے؟

”رب کائنات کس قدر کج حیرت انگیز خیال کا مالک ہے۔“

لارڈ کولن بر سائرس کے خوردبینی مطالعے کے بعد فرط حیرت سے چلا اٹھا تھا،

”It is impossible to conceive either the begining or the continuance of life without an ever ruling creative power. Overpowering strong proofs of benevolent and intelligent designs are to be found around us, Teaching that all living things depend on everlasting Creator and Ruler.“

”یہ خیال قطعی ناممکن ہے کہ زندگی کا آغاز یا تسلسل بغیر کسی خالق کے ہو سکتا ہے۔“

ہمارے ارد گرد کے حیرت انگیز مناظر و نمونے جو الہی تخلیق و تعمیر کے زبردست ثبوت ہیں، ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ تمام جاندار اشیاء کا انحصار ہمیشہ قائم رہنے والے (حی و قیوم) حاکم کی مشیت پر ہے۔“

لارڈ کولن کے یہ نتائج اس الہام کے قریب قریب ہیں،

اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تاخذه سننه ولا نوم (بقرہ-255)

”اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ سب کا زندہ اور قائم رکھنے والا ہے

نہ اسے اونگھ آتی ہے نہ نیند۔“

اسی طرح سر بروٹریانی کے ہر ایٹم کی ترکیب کو گھڑی کی ترکیب سے بھی زیادہ

پارلر پکارا اٹھے تھے،

”Oh God! How marvelous are thy works.“

”اے رب! تیرے کام کس قدر حیرت انگیز ہیں۔“

سر جمیز جینز (Sir James Jeans) لکھتے ہیں کہ فلکیات پر چالیس برس

غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس طرح ایک مصنف کو سمجھنے کیلئے اس کی

ادب کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے بالکل اسی طرح اللہ کو سمجھنے کیلئے اس کی کتاب یعنی

حقیقہ فطرت پر غور کرنا لازمی ہے۔ ہم جوں جوں اللہ کی محیر العقول صنایعوں پر غور

کرتے ہیں، اللہ کی عظمت و حکمت کے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ علم وہ زینہ ہے جو

اس کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے اور قریب پہنچ کر ہم اللہ کی عظمت و جلال سے سہم

لے ہیں۔

بالفطیٰ دیگر اللہ سے ڈرنے کا ایذا صرف ایک صاحب علم کو ہی ہو سکتا ہے۔

انما يخشى الله من عباده العلمو (فاطر-28)

”اللہ سے علماء فطرت ہی ڈرتے ہیں۔“

☆☆☆

## ایک حکایت

ایک مسافر شدید گرمی میں جنگل میں موجود ایک بھونپڑے میں جا پہنچا۔ جس کے ارد گرد ناریل کے درخت واقع تھے۔ میزبان نے اس کو شرمٹ، دودھ اور حلوا وغیرہ پیش کیا تو مسافر نے حیرت سے پوچھا کہ جنگل میں یہ غذائیں کدھر سے لائیں؟ جواب ملا کہ سب ناریل کی بدولت ممکن ہوا۔ کما میں کچے ناریل سے پانی (1)، پختہ ناریل سے دودھ (2)، پتوں سے حلوا (3) ٹٹونوں سے شرمٹ (4)، پھلوں سے شکر (5)، پھال سے برتن (6)، کلزی سے ایندھن (7)، بے ہوئے پتوں سے چھت (8)، ریٹوں سے رسیاں (9) اور تیل سے روشنی (10) حاصل کرتا ہوں۔

جب مسافر چلنے لگا تو اس میزبان نے ناریل کی ایک شاخ کو جھلا جس سے غبار ساگر اٹو اس غبار سے سیاہی کا کام لے کر اپنے ایک دوست کو خط لکھ کر اس کو تھما دیا۔ اس لئے تو اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے۔

- 1- **هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَارُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنَ دُونِهِ (لقمان- 11)**  
 ”یہ اللہ کا ہی کمال تخلیق ہے۔ اللہ کے بغیر کسی نے کچھ پیدا کیا ہو تو سامنے آؤ۔“

اور

- 2- **فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ (رحمن- 13)**  
 ”تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔“



## حیرت انگیز حقیقت

حضرت عیسیٰ نے توفیق الہی سے کچھ سے ایک پرندہ بنایا تو لوگوں نے آپ کو لہ لہ کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ روزانہ کچھ سے لاکھوں حیوانات و نباتات ازل سے پیدا فرما رہے لیکن کسی کو کوئی حیرت محسوس نہیں ہوتی۔



## قرآن الہامی کیونکر؟

باب دوم

انسان فطرانی آرام پسند اور آزاد خیال ہے جس کی وجہ سے وہ پابندیوں اور حدود قیود سے فرار چاہتا ہے۔ عمد حاضر میں اسی آزادی خیال اور دنیا پرستی کو مذہب خیالی کیا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن حکیم کے قواعد و ضوابط زندگی میں مقصدیت اور حدود قیود کا تعین کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مکمل اطاعت پر زور دیتے ہیں۔ یوں قرآن پاک شروع سے ہی دنیاوی عیش و عشرت اور آرام پسندی کی راہ میں رکاوٹ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ غیر مذہب اور منافقین کو یہ ایک آنکھ نہیں بھانا اور وہ ہر وقت اس پر اعتراضات اٹھانے کی تاز میں لگے رہتے ہیں جبکہ اہل علم و ایمان، قرآن کے دفاع میں دلائل اور شہادتوں سے کام لیتے ہیں۔ اس طرح حق و باطل کی یہ روانی جنگ کوئی نئی بات نہ ہے۔

ایک انتہائی اہم سوال جو ہم سے کوئی بھی غیر مذہب، منافق یا بے علم و عمل مسلمان پوچھ سکتا ہے وہ ہے،

”کیسے یقین کر لیا جائے کہ قرآن پاک حرفِ برف اللہ کی طرف سے اتارا گیا اور یہ (نعوذ باللہ) رسول اللہ ﷺ کی ذاتی تصنیف نہ ہے؟“

اس کے جواب میں بے شمار ثبوت، دلائل اور شہادتیں پیش کی جاسکتی ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر آگے آرہا ہے لیکن ان سے قبل ایک بات کی وضاحت انتہائی ضروری معلوم

اتی ہے کہ ایسے سوالات یا شبہات صرف اور صرف قرآنِ عظیم کے مطالعے اور سوچ سمجھ کی عدم موجودگی یا کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر قرآن کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس قسم کے سوالات ذہنِ انسانی میں راہ ہی نہیں پاسکتے۔ اگرچہ قرآن کے علوم کو مکمل طور پر پالینا انسانی بس کی بات نہیں تاہم جو کوئی اس کے علوم کی کچھ حد کو پالیتا ہے، حق و حق کو پالیتا ہے اور جو حق کو پالیتا ہے وہ باطل سے نہیں بچتا باطل اس سے دور بھاگنے لگتا ہے۔

آئیے اب ان چند دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد قرآن کے وحیِ جناب اللہ ہونے سے متعلق کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔

☆ ☆ ☆

### 1. نبی پاک ﷺ کا اُمّی ہونا

لفظ ”اُمّی“ کے لغوی معنی ایسے شخص کے ہوتے ہیں جو اپنے دور کی رسمی تعلیم سے نااہل ہو۔ تواریخ عالم اور سیرت نبی کے تمام مسلم اور غیر مسلم مصنفین اس بات پر متفق ہیں کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد ﷺ نے اپنے زمانے کی عام و رسمی تعلیم حاصل نہ کی تھی۔ آپ ﷺ کی ذاتِ اقدس سے ہٹ کر اگر ہم ایک عام اُمّی شخص کے بارے میں تصور کریں جو مدبر سے، اخبار، ٹی، وی، ریڈیو، سینما، ڈش، کمپیوٹر اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی صحبت سے محروم ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص ایک خاص حدِ نظر سے آگے نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سوچ سکتا ہے۔

قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس پر دنیا بھر کے ادیب اور دانشور گزشتہ چودہ

صدیوں سے حیران ہیں کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔  
اندلس کا مشہور فلسفی ابن رشد کہتا ہے،

”قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ایک ہی وقت میں عقائد کا مجموعہ بھی ہے اور توأمین و  
ضوابط کا بھی“۔

شاعر کہتے ہیں نہ تو یہ کسی ہنر کا کام ہے اور نہ ہی شاعری،

سائنسدان اس وقت مبسوت ہو کر رہ جاتے ہیں جب وہ کوئی انتہائی جدید سائنسی  
دریافت حاصل کرتے ہیں لیکن بعد میں ان کو اس کا ذکر صدیوں قدیم قرآن پاک میں بیان  
کیا گیا ملتا ہے حالانکہ قرآن کوئی سائنسی مضامین سے متعلق کتاب نہ ہے۔ اب جو ناقص  
العلم و عقل یہ کہیں کہ قرآن (نعوذ باللہ) رسول ﷺ کی ذاتی تصنیف ہے، ان سے پوچھا  
جائے کہ کیا ایسی کتاب کوئی امتی تصنیف کر سکتا ہے؟

هو الذی بعث فی الامم رسولا منهم ینلوا علیہم ایتہ و ینزکبہم و  
یعلمہم الکتب والحکمہ (جمہ۔ 2)

”وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں سے رسول بھیجا تاکہ لوگوں کو اس کی آیتیں  
سنائے، انہیں پاک کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کا علم سکھائے۔“

امتوں میں سے نبی بنا تا اللہ کی عادت رہی ہے تاکہ حق شناسوں کیلئے آسانی  
ہو لیکن جب ذکر آتا ہے سید الانبیاء و رحمت اللعالمین ﷺ کا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت  
جبریل کے ذریعے آپ پر علوم نبوت کی ایسی بارش کی کہ آپ ﷺ علم الودعین و آخرین  
قرآپائے۔

## 2. قرآن کی معجزانہ زبان

چونکہ قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ کا اپنا نازل کردہ ہے اس لئے اس کی زبان و کلام  
بجزانہ ہے اور اس کا مکمل اور اک انسانی عقل سے بالاتر۔

جب کوئی انسان اپنی ایک تحریر عمل میں لاتا ہے تو مسلسل غور و فکر کرنے کے بعد  
اس کے لئے لفظ منتخب کرتا ہے اور کئی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تصحیح در تصحیح کے بعد بھی  
نی لوگوں کو دکھاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس میں کئی تیشی کی گنجائش بدستور باقی رہتی ہے  
لیکن قرآن کا ایک لفظ بھی اگر بنا کر اس کی جگہ کوئی متبادل لفظ رکھنا چاہیں تو تمام عربی لغت  
چھاننے کے بعد بھی اس کا متبادل لفظ نہ مل سکے گا۔ ثابت ہوا کہ قرآن کریم کلام معجز ہے اور  
انسانی قدرت سے بالا۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی امی ﷺ نے یہ کلام بغیر کسی غور و خوض  
کے وقتاً فوقتاً مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا۔ اور یہی قرآن کریم کے الہامی ہونے کی  
سب سے بڑی دلیل ہے۔

تنزیل الہی ہونے کی وجہ سے انسانی زبانیں اس کا سو فیصد درست ترجمہ، تفسیر و  
تشریح بیان کرنے سے قطعی قاصر ہیں (اس کی تفصیل الگ مضامین ”اختلاف ترجمہ و تفسیر  
“ اور ”حسن الفاظ قرآن“ میں آگے آ رہی ہے)

عش بالا سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ایسی جامع اور تکمیلی زبان میں کوئی  
مفہم، خاص کر کوئی امی شخص اتنی ضخیم کتاب تصنیف کر ہی نہیں سکتا۔

### 3. حضور ﷺ کی صدیقانہ زندگی

آپ ﷺ کی صدیقانہ زندگی ہی قرآن پاک کا کلامِ الٰہی ہونے کا عظیم ترین ثبوت ہے۔ آپ پورے عرب میں صادق کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کے مخالفین بھی دجی و ہدایت کے علاوہ آپ کی ہر بات ماننے کیلئے تیار نظر آتے تھے جو ان کی بے عقلی، نا عاقبت اندیشی اور خباثت کا ثبوت تھا اور نہ جب آپ کی فرمائی ہوئی ہر بات حق و سچ پر مبنی ہے تو آپ کے قرآن کو وحیِ منجانبِ اللہ قرار دینے کے بعد اس حق بات سے انکار کا کیا جواز تھا؟

حق شناسوں کیلئے تو آپ ﷺ کا فرمانِ مبارک ہی سند ہوتا ہے۔

### 4. ایک غور طلب دلیل

تمام دنیا اس حقیقت سے روشناس ہے کہ حضور ﷺ ایک ہی وقت میں نبی، خطیب، امام، راہنما و پیشوا، سپہ سالار و سپاہی، قانون دان و فاتح، منصف و معلم، سیاست دان و معیشت دان، محنت کش اور شوہر تھے۔ آپ ﷺ کی ذاتِ اقدس سے قطع نظر اگر ہم ایک عام انسان کے بارے میں تصور کریں جو اتنے معاملاتِ زندگی سے بھی جڑا ہو اور اس کی فکر میں بھی اختلاف نہ آئے پائے، وہ ایک ہی مرکز (مخبر توحید) کے تحت تمام شعبہ ہائے جاہِ زندگی کو منظم کرتا چلا جائے اور 23 سال کے بعد ایسی مربوط اور عظیم کتاب تیار کر سکے، ایسا قطعی ممکن نہیں لگتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہی حرفِ برف اپنے محبوب حضرت محمد ﷺ پر نازل فرمایا تھا۔

### 5. قرآن و حدیث میں فرق

قرآن و حدیث کے بغور مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے کلامِ رسول اکرم ﷺ کے کلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کوئی حدیثِ مبارکہ کسی قرآنی آیت کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن عظیم کی زبان فصیح و بلیغ اور مجزا ہے جس کی آیات کی تعبیر ایسی ہے کہ سنتے ہی حضرت عمرؓ جیسے سخت گیر آزاد طبع لوگ حضور پاک ﷺ کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور شہنشاہِ جہش نجاشی کی واڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔

قرآن کو رسول ﷺ کی تصنیف قرار دینے والے بتائیں کہ آپ ﷺ وحی سے قبل چالیس سالہ دور میں بھی تو گفتگو فرماتے رہے، کیا اس دوران کوئی آیہ کریمہ آپ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلی؟ اگر نہیں تو چالیس سال کے بعد ایسا کیوں کر ہونے لگا؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی حقانیت کی طرف لے جاتے ہیں۔

### 6. ایک ناقابلِ تردید حقیقت

ایک غور طلب امر ہے کہ حضور ﷺ کی ذاتِ اقدس سے ہٹ کر ایک عام شخص جو ایک جاہل قوم میں پیدا ہوا اور عمر کی چالیس بہاریں بیویاں اور دیگر چھوٹے چھوٹے مشاغل میں اسی قوم کے ساتھ گزار دے اور اپنے وقت کی رسمی تعلیم سے بھی بہرہ مند نہ ہو سکے کہ عمر کے ایک خاص حصے میں اچانک اس کی ذات کے اندر ایسے فضائل و کمالات اور بے بہا علوم یکجا ہو جائیں، ایسی غیر معمولی طاقت آجائے کہ وہ بیک وقت تمام

انسانی دروہائی خاصیتوں کا مالک بن جائے، یہ سب کچھ ممکن نہیں لگتا۔ لیکن جب ذکر آتا ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ﷺ کی ذات اقدس کا تو یہ سب کچھ اس طرح ممکن ہوا کہ آپ ﷺ ایک ہی وقت میں نبی، مصلح، منصف، قانون دان، مبلغ، سپہ سالار، فلاسفر، سیاستدان، معلم، حکمران اور دین و دنیا کے ایسے عالم قرار پائے کہ آپ ﷺ کے اخلاقیات، معاشرت، معاشیات، سیاست اور انسانی زندگی سے متعلق بنائے ہوئے قوانین رہتی دنیا تک کیلئے ناقابل ترمیم قرار پائے اور بڑے بڑے علماء و حکماء ان قوانین و ضوابط کی حکمتوں کو مشکل ہی سمجھ پائے۔ کیا یہ سب کچھ اللہ کی مدد اور وحی کے بغیر ممکن ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔

ایسے کمالات دکھانے کے بعد اگر آپ ﷺ (نعوذ باللہ) خدائی کا دعویٰ بھی کرتے تو لوگ آپ کے ساتھ ہو لیتے لیکن آپ ﷺ نے یہ سب کچھ اللہ کی توفیق قرار دیا اور فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں اور علم و حکمت سے بھر پور کتاب صرف اسی کی تزیل ہے۔

## 7. قدیم انکشافاتِ حق

چودہ سو سال قدیم تزیلِ قرآن کی وہ ان گنت پیشگوئیاں اور انکشافات جن کا علم جدید ادوار میں عقلِ انسانی پر ظاہر ہوا، قرآن کے الہامی ہونے کا غیر معمولی ثبوت ہیں (تفصیل کے لیے پوری کتاب کا مطالعہ کریں)۔ اس کے بعد یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ کائناتِ اسرار سے متعلق ان حقائق کی پردہ کشائی کسی مصنف کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ تو صرف اسی قادر مطلق ذات کی شان اور معجزہ ہے جو کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی شے اور ہر بڑی سے بڑی چیز پر قدرت اور حکمرانی رکھتی ہے (تفصیل کے

”شمون“ چھوٹے اور بڑے ذرات “ پڑھیں)۔ وہ ہی واحد خالق کائنات ہے جو اپنی کائنات اور ان کے سرسبز رازوں سے آگاہ ہے۔

## 8. قرآن کا چیلنج

مشرکین مکہ کے اس پروپوگینڈے پر کہ قرآن (نعوذ باللہ) حضرت محمد ﷺ کی ذاتی بیروہ تصنیف ہے، اللہ نے تمام بنی نوح انسان کو کھلے عام یہ چیلنج دیا،

فَا نُو بَسُوْرَةٌ مِّنْ مِّثْلِهِ وَا دْعُوْا اَشْهَادًا ؕ كِم مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ  
(بقرہ-23)

”تو اس جیسی ایک سورت تو لے کر آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمانتیبوں کو بھی مارا، اگر تم سچے ہو۔“

لیکن آج تک قرآن جیسی ایک صورت لانا تو دور کنار، اس جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کی جاسکتی ہے۔ حریری، ہمدانی، معری اور ابو الفضل جیسے ادیبوں نے لاکھوں سر کھپایا لیکن قرآن جیسا ایک جملہ تک بھی نہ لکھ سکے۔ اگر کچھ لکھا بھی تو مشککہ خیز قرار پایا۔

## 9. اللہ کی گواہی

پروردگار عالم خود قرآن کے الہامی ہونے کی شہادت کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے،  
لٰكِن اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَاكْفٰى  
بِاللّٰهِ شَهِيدًا (النساء-166)

”لیکن اے محبوب اللہ نے جو کچھ تمہاری طرف اتارا اس کا وہ خود گواہ ہے کہ اس

نے اپنے علم سے اتارا۔ اور فرشتے بھی گواہ ہیں اور اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔“

واقعی اہل علم و ایمان اور حق شناسوں کیلئے صرف اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔

## 10. قرآن اور شاعری

جاہل کفار کا یہ الزام کہ قرآن (نحوذ بانہد) محمد ﷺ کی شاعری ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس وقت رد قرار پایا جب اُس وقت کے اور بعد کے شعراء عالم نے یہ وضاحت کی یہ شاعری تو کیا کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہو سکتا۔ لاتعداد فلاسفوں، شاعروں اور دانشوروں نے قرآن کے کلام کو مافوق الفطرت اور انسانی فہم و فراست سے بالا قرار دیا جیسے،

1- عتبہ بن ربیعہ (مشرک سردار) کو آنحضرت ﷺ نے جب سورہ حم مجدہ کی پہلی چار آیات سنائیں تو وہ بلا لاکہ یہ جاوہر نہ شعر بلکہ فصاحت و بلاغت میں، میں نے ایسا کلام اس سے قبل کبھی نہیں سنا۔

2- خانہ کعبہ کے غلاف پر سورہ کوثر لکھی دیکھ کر ایک شاعر مجسمہ حیرت من گیا اور یوں گویا ہوا۔

”یہ کلام کسی بحر کا نہیں ہو سکتا“

3- حضرت انیس جو خود بہت بلا سے شاعر تھے فرماتے ہیں،

”خدا میں نے کاتبوں کا کلام سنا لیکن قرآن دیکھا نہیں ہے، میں نے اس کلام کا شعر

ام اسلاف اور اقسام سے تقابل کر کے دیکھا، لیکن یہ شعر بھی نہیں ہے۔“

اللہ تعالیٰ، قرآن اور شاعری کا فرق کچھ یوں واضح فرماتا ہے،

وما هو بقول شاعر قلبلا ما تثومنون (حاتہ۔ 41)

”اور قرآن کسی شاعر کی بات نہیں۔ تم کتنا کم یقین رکھتے ہو!“

## 11. اہل کتب کی آگاہی

بعثت حضور ﷺ قبل یسوی اور عیسائی نبی آخر الزماں کی آمد اور کتاب قرآن کی نزول سے یکسر باخبر تھے۔ کیونکہ ان کی کتابوں تورات اور انجیل ہیں یہ بشارتیں واضح طور موجود تھیں۔ یسوی تو آخری نبی ﷺ سے اس طرح واقف تھے جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے سے متعلق جانتا ہوتا ہے۔ (تفصیل باب ششم ”قدیم صحائف اور الہامی کتب میں محمد ﷺ کا ذکر خیر“ میں پڑھیے)

تاریخ گواہ ہے کہ حضور ﷺ کے ظہور سے قبل جب بھی ان اہل کتاب پر کوئی مصیبت یا قہر نازل ہوتا یا مشرکین سے شکست کا واضح خطرہ پیدا ہو جاتا تو وہ آخری نبی کے واسطے اور وسیعے سے اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ ﷺ کی آمد و ظہور پر ان کا ایمان نہ لانا مبینی برکینہ اور تعصب تھا۔

اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہے،

والذین اتینہم الکتب بعلمون انه منزل من ربك بالحق (انعام۔ 115)

”اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ تم سے رب

کی طرف سے سچ اترا ہے۔“

## 12. غیر متبدل احکامات

عام مشاہدہ ہے کہ ایک انسانی تصنیف میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، دریاؤں، ایجادات کے عوامل اور تجربات و مشاہدات کی جدت اور تفسیراتِ زمانہ ایسے مظاہر ہیں جن کی وجہ سے عام کتاب ان تقاضوں کو پورا نہ کرتے ہوئے تغیر و تبدل کا تقاضا کرتی ہے۔ جبکہ قرآن کی شان یہ ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، اس کی حقانیت اور استدلال مزید واضح ہوتے جا رہے ہیں یعنی اس کی تفسیر اور توضیحات کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے (مضمون حکمت و تشابہات پر دیکھیں)۔ اس کے احکامات و قواعد اہل اور غیر متبدل ہیں اور اس کے بیان کردہ اصول و دنیا کے ہر معاشرے کو اس آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسانی عقل و فہم ایسی تصنیف نہیں کر سکتی۔ لازماً یہ اسی ذاتِ باری تعالیٰ کی تنزیل ہے جو تمام علوم کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ بالفاظ دیگر قرآن، اسی ذاتِ بزرگ و برتر نے ہماری ہدایت و راہنمائی کے لیے اہم اہم عظیم، عظیم اور حکیم ہے۔

## 13. الہامی کتب کے حوالہ جات

تمام تاریخِ عرب اس بات کی گواہ ہے کہ آپ ﷺ عبرانی اور سریانی دونوں زبانوں سے قطعی ناواقف تھے۔ تورات عبرانی اور انجیل سریانی زبان میں نازل کی گئی تھی۔ آپ ﷺ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک میں تورات اور انجیل میں بیان کردہ کئی حوالہ جات ملتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو (نعوذ باللہ) رسول کی تصنیف قرار دیتے ہیں، جو اب دیں

ب آپ ﷺ ان گزشتہ الہامی کتابوں کی زبانوں سے ہی لاعلم اور ناواقف تھے تو آپ اپنی کتاب میں ان حوالہ جات کا بیان کیسے فرما سکتے تھے؟

حق تو یہ ہے کہ یہ کتاب اسی پروردگار کی نازل کردہ ہے جس نے تورات اور انجیل اہل فرمائی تھیں اور وہی اپنے احکامات کو مکمل کر رہا تھا کیونکہ اس کے سچے دین اسلام کی تکمیل حضرت محمد ﷺ کی رسالت اور قرآن عظیم کی تنزیل پر ہونی تھی۔

## 14. اللہ اور رسول کی دعوت فکر

اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے بار بار قرآن پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ یوں سر عام تمام نسلِ انسانی کو ایسا چیلنج دینا ہی اس کلامِ حق کا معجزہ اور الہامی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی انسان اپنی تصنیف پر ایسی دعوت کا چیلنج نہیں دے سکتا کیونکہ وہ یہ جانتا ہوتا ہے کہ اس کی تصنیف پر غور کرنے اور زمانے کے تقاضوں کے بدلنے کی وجہ سے بے شمار اعتراضات اٹھیں گے۔ قرآن پاک کے معاملے میں تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ اور رسول ﷺ نے یہ حقیقت جانتے ہوئے کہ جو کوئی بھی اس کتاب پر غور کرے گا، اس کی آنکھیں حق و سچ پا کر کھلتی ہی چلی جائیں گی اور وہ قرآن کی حقانیت اور وحیِ منجانب اللہ ہونے سے آگاہ ہو جائے گا، ایسی دعوت دی ہے۔

اللہ کے فرامین کے مطابق، کائنات اور قرآن میں بیان کردہ تمام حقائق اہل علم و عقل کیلئے نشانیاں ہیں (مطالعہ کریں مضمون ”مطالعہ کائنات“ کا)۔

## 15. حق گوئی اور سابقہ الہامات کی تصدیق

قرآنی احکامات اور قواعد و ضوابط پر عمل کا نتیجہ بلدی، تقدس، پارسائی اور عظمت ہیں۔ اس میں مبالغہ آرائی، جھوٹ اور عربی وغیرہ کا وجود ناممکن ہے۔ صاف گوئی و متانت قرآن پاک کا خاصہ ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کی تعلیمات گذشتہ صحائف اور الہامات کی تصدیق کرتی ہیں۔ اس کی کوئی بات بھی انسانیت اور فطرت کے مسلمہ اصولوں کے خلاف نہیں۔ یہ بیک وقت علوم، عقائد، قوانین، معاملات، عبادات، ہدایات اور احکامات کا مجموعہ ہے۔ باقی تمام صحائف اور الہامی کتب، اگرچہ اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں تاہم ان کے الفاظ، تعبیرات اور عبارات پیغمبروں کی اپنی ہی زبانی ہیں جبکہ قرآن کے الفاظ اور مفہوم دونوں پروردگار عالم کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ ان میں ایک حرف تک کا رد و بدل بھی ہو سکا ہے اور نہ ہی ہو سکے گا کیونکہ پروردگار عالم نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ (اس سے متعلق آگے کے ایک مضمون "قرآن سے متعلق وعدے" میں پڑھیں)

## 16. تلاوتِ کلامِ پاک

یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن عظیم ہے۔ عام مشاہدہ یہی ہے کہ ایک عام انسانی تصنیف کو ایک سے زیادہ بار پڑھنے کو قطعی جی نہیں چاہتا جبکہ قرآن مقدس میں ایسی کشش و برکت ہے کہ پڑھنے والا کبھی نہیں آگتا اور نہ ہی اور ہوتا ہے بلکہ شوقِ تلاوت بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تب ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے

درہو جاتے ہیں کہ خدا ایسی کتاب صرف اللہ کی تزیل ہی سکتی ہے۔

## 17. اعجازِ قرآن

ایک عام تصنیف پر بحث کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کسی حصے یا حصوں میں سے کوئی سطر یا چند سطور نکال کر دوسرے مضمون میں رکھ دی جائیں تو ان کے معانی و مفہوم بدل کر رہ جاتے ہیں جبکہ عظیم القدر قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کے ہر پارے کی کسی آیت کو آخری پارے کی کسی آیت سے ملا کر بھی پڑھ لیا جائے تو اس کا اپنا مفہوم بالکل وہی رہتا ہے۔ یہ خاصہ واعجاز صرف قرآن کو ہی حاصل ہے۔

## 18. فطری قوانین کے مطابق

اس عظیم الاشان تزیل الہی کے تمام احکامات اور قواعد و ضوابط فطری قوانین انسانی اور انسانی ضمیر کی آواز کے عین مطابق ہیں۔ انسانی ضمیر اور فطری قوانین کا خاصہ ہے کہ نیکی کو اچھا اور بدی کو قابل نفرت گردانتے ہیں۔ اچھائی اور برائی کو قرآن میں الگ الگ اور کھول کر بیان فرمایا گیا ہے۔ اس میں ایسے پیچیدہ اور حیرت انگیز مسائل کے حل تائے کتبیں جن کا ادراک عقل انسانی آج تک بھی نہ کر سکی ہے۔ انسانی عقل سے بالاتر ان ہر حکمت کتاب تک رسائی صرف اسی ذات باری تعالیٰ کو ہے جس نے قرآن پاک کو ہمارے انتہائی پیارے نبی ﷺ پر نازل فرمایا۔

## 19. مستند ترین ترتیب

قرآن کے الہامی ہونے پر ایک قوی ترین دلیل یہ ہے کہ اس کی ترتیب اللہ کی مشاء کے عین مطابق ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ترتیب یا قرآن کے الفاظ و مضمون میں کمی بیشی کا کوئی احتمال نہیں ہو سکتا اور اس بات کی تصدیق سر ولیم میور (Sir William Mure) جیسے مستشرقین بھی کرتے ہیں کہ یہ کلام حق ہم تک حرف بحرف پہنچا۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو رسول ﷺ کا سب وجہ کو اللہ کے فرمان کے مطابق جو آپ ﷺ تک حضرت جبریل کے ذریعے پہنچتا تھا، حکم فرماتے کہ اس کو فلاں آیت کے آگے یا پیچھے لکھ دو، یہ عمل تقریباً تینیس (23) سالوں تک جاری رہا۔ اور بالآخر ایسی معرکہ آرا اور بلند پایہ کتاب مدون ہوئی جس کے سامنے کروڑوں بلکہ اربوں انسانوں کی گردنیں جھک گئیں۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے علاوہ کون جانتا تھا کہ اتنے عرصے کے بعد ایسی مربوط، جامع اور علم و حکمت سے بھرپور کتاب تیار ہوگی (تفصیل کیلئے ”قرآن سے متعلق وعدے“ آگے پڑھیں)۔

## 20. عالمگیر مساوات کا درس

ہر قدیم صحیفے اور الہامی کتاب کی تعلیمات کسی خاص قوم یا نسل تک محدود رہیں۔ قرآن وہ واحد الہامی کتاب ہے جس کو تمام دنیا کی ہدایت و راہنمائی کیلئے نازل فرمایا گیا اور عالمگیر مساوات اس طرح قائم کی گئی کہ بدترقی کی جگہ صرف ایمان اور تقویٰ کو

دیا گیا۔ انسانی سوچ ہمیشہ محدود ہوتی ہے وہ پوری نسل انسانی کی مساوات کا تصور نہیں لے سکتی۔ نہایت ہو کہ یہ کتاب اس مالک و خالق کی ہی تنزیل ہے جس کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔

## 21. ایک تکینکی مشاہدہ

ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی تصنیف منظر عام پر آتی ہے تو اس میں مصنف کے ذہن سے در خواست کرتا ہے کہ اس میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے تاکہ اس کی ترمیم ہو سکی۔ لیکن قرآن کی توشان ہی کچھ اور ہے، اس کے زیادہ سے زیادہ غلطیوں سے اس کی حقانیت اور اعجاز مزید سے مزید ترواضح ہوتا جاتا ہے۔ اس میں غلطی یا کسب کا ہونا تو ایک طرف، ایسا تصور بھی ناممکن ہے۔ خود فیصلہ کریں کہ کیا ایسی کتاب (اللہ) کسی انسان کی تصنیف ہو سکتی ہے؟



## ایک عقلی دلیل

عام فہم حقیقت ہے کہ کوئی بھی مصنف اپنی ہی کتاب میں اپنی ہی غلطیوں، خامیوں اور لغزشوں کا ذکر کرنے سے گھبراتا ہے کہ کہیں لوگ دور ان مطالعہ ایسی چیزیں پڑھ کر اس سے بدگمان و بدظن نہ ہو جائیں۔ لیکن قرآن پاک میں بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم ﷺ کو اصلاحی اور تنقیدی پیرائے میں بھی مخاطب فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ ﷺ سے ایسا خطاب صرف اللہ ہی کر سکتا ہے تاہم اس طرزِ مخاطب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر قرآن (نعوذ باللہ) رسول ﷺ کی ذاتی تصنیف ہوتی تو آپ ایسے واقعات کبھی بھی تحریر نہ فرماتے۔

طوالت مضمون سے بچنے کی خاطر دو تین مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں،

1۔ بدر کے مشرک فیدیوں سے متعلق حضرت عمرؓ سمیت تمام صحابہ کا مشورہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے لیکن آپ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ و دیگر صحابہ کرامؓ کے مشورے سے ندریہ لے کر ان کو رہا کر دیا جس پر درج ذیل آیات نازل ہوئیں۔

ما كان لنبى ان يكون له اسرى حتى يثخن فى الارض فريدون عرض الدنيا والله يرد الاخرة والله عزيز حكيم (انفال 67/68)

”کسی نبی کو اختیار نہیں کہ وہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک کہ وہ زمین پر ان کا خون نہ بہائے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا

اور اللہ پہلے سے ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا تو اسے مسلماً انہوں نے کافروں سے جو بدلے مانگے، اس میں تم پر بڑا عذاب آتا۔“

سوچنے والی بات ہے کہ اگر قرآن آپ ﷺ کی ذاتی تصنیف ہوتا تو آپ کو اپنے ہی صلہ پر ایسی تنقید کی کیا ضرورت تھی جبکہ آپ کے تمام صحابہ کرامؓ آپ پر تنقید کرنا تو کجا ایسا سوچنا بھی کفر جانتے تھے۔ ایسے حالات میں آپ اپنے اور اپنے جلیل القدر صحابہ کرامؓ سے فیصلہ کو قطعی طور پر ہدفِ تنقید نہ بناتے۔ اپنے محبوب نبی ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو دنیا غالب قرار دینا اور عذاب کی وعید سنانا صرف اور صرف اس بزرگ و برتر اور باقی دہانگ ذات کا اختیار ہی ہو سکتا ہے۔

2۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ کفار مکہ کے ساتھ بنو نضیرؓ تھے کہ ایک اندھے صحابی نے مکتومؓ حاضر خدمت ہوئے اور باقی لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کچھ پوچھنے لگے۔ چونکہ آپ ﷺ پہلے سے ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے اس لئے ان کی طرف بروقت توجہ نہ فرمائی تو یہ آیات نازل ہو گئیں۔

عسى و تولى ☆ ان جاءه الا عسى ☆ وما يدريك لعله يزكى ☆ او يدكر فتنته الذكرى ☆ اما من استغنى ☆ فانت له تصدى ☆ وما عليك الا بركى ☆ واما من جاءك يسعى ☆ وهو يخشى ☆ فانت عنه تلهى (مجموعہ۔ 10: 1)

”جب رسول کی محفل میں ایک اندھا آیا تو اس نے ماتھے پر بل ڈال دیئے اور منہ پھیر لیا تمہیں کیا معلوم کے وہ مزید سُدھر جاتا اور تمہاری نصیحت سے فائدہ اٹھاتا۔ دوسری

طرف جو شخص تم سے بے نیازی کرتا ہے، تم اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ اگر وہ ہدایت حاصل نہ کرے تو ہم تم سے باز پرس نہیں کریں گے۔ (جو خدا ترس آدمی تمہاری طرف دوڑتا ہوا آتا ہے، تم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔)“

اس واقعہ کی قرآن میں موجودگی دلالت کرتی ہے کہ جب آپ ﷺ کے خلق کو اللہ تعالیٰ اور تمام مفکرین عالم نے عظیم ترین قرار دیا ہے ایسے میں اگر قرآن پاک آپ کی ذاتی تصنیف ہو تا تو آپ ایسا واقعہ کبھی بھی اس میں بیان نہ فرماتے جو آپ ﷺ کے خلق عظیم کے ذمہ بھر بھی منافی نظر آتا اور مشرکین کو اعتراض کا موقعہ فراہم کرتا ہو۔

3- خازن، ابن کثیر، ابن ماجہ، نسائی اور صحیح مسلم میں بیان ہے کہ ایک مرتبہ حادث بن نوفل اور عقبہ بن ربیعہ وغیرہ نے آپ ﷺ سے کہا، اگر آپ عمار اور بلال جیسے چھوٹے لوگوں کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دیں تو ہم بھی آپ کے پاس بیٹھا کریں۔ آپ ﷺ نے جواب میں کچھ تانیخ فرمائی جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سوچ رہے تھے کہ شاید ایسا کرنے پر مشرک زیادہ قریب آئیں اور بہتر تبلیغ دین ہو سکے۔ ابھی آپ ﷺ اس تجویز کے مضمرات پر غور فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل یہ پیغام لے کر حاضر خدمت ہوئے۔

ولا تظنوا الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وء وما من حسابك عليهم من شيء : فتنظروهم فتكونون من الظالمين

(انعام-52)

”اور جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں انہیں مت دور کرو۔ تم ان کے اعمال کے ذمہ

نہ رہو، نہ ہی وہ تمہارے اعمال کے جوابدہ ہیں۔ پھر اگر تم انہیں اپنے ہاں سے نکالو تو تم ان میں سے ہو جاؤ گے۔“

ثابت ہوا، اللہ اپنے پکارنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے کہ ان کی خاطر اپنی اس ذات ﷻ کو بھی سخت گیر لہجے میں مخاطب فرمایا جس کی خاطر تمام کائنات تخلیق ہوئی۔

خود بتائیں کہ کیا ایک مصنف اپنی کتاب میں اپنے آپ کو ایسے تنقیدی پیرائے میں مخاطب کر سکتا ہے؟

ہرگز نہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ قرآن حکیم اس ذات باری تعالیٰ کی تنزیل ہے جو اپنے حبیب مکرم ﷺ پر بھی تازیاب اور اظہار ناراضگی کا اختیار رکھتا ہے۔

دور دو سلام آفرین اس عظیم ترین ذات اقدس ﷺ پر جس پر یہ عظیم القدر آیت نازل فرمائی گئی۔

☆☆☆

## علمی دلیل

تاریخ کے اوراق اٹھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمالت اور تاریکی کے جس دور میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، ایشیاء اور یورپ دونوں براعظموں میں علوم کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ اگرچہ یونان کے قدیم علماء و حکماء نے ریاضی، نجوم، طب اور منطق وغیرہ پر چند کتابیں لکھی تھیں تاہم اس وقت میڈیا کے نظام کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ عربوں تک نہ پہنچ سکتی تھیں۔ یوں ہم ان مستشرقین سے، جو تعصب اور کینے کی وجہ سے قرآن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف گردانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ایسے حالات میں ایسی مربوط، جامع، علوم اور حکمت سے بھرپور کتاب کیسے تحریر کی جاسکتی تھی؟ کائنات کے واحد خالق و مالک کا واضح تصور، موت و حیات، عقل و روح کی حقیقت، انسان کا اللہ سے تعلق و ربط، حیات بعد الموت، رسالت، کشش ارضی، قوانین فطرت، ملائکہ و خیر و شر کا تصور، اعلانات قرآن اور پیشگوئیاں، انکشافات غیبیہ، یا جوج ماجوج، امام مہدی اور قیامت وغیرہ کا ذکر تمام ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت کے ادب میں قطعی ناپید تھیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہٹ کر اگر ہم کسی عام شخص کے بارے میں بحث کریں تو ایسا قطعی ممکن نہیں کہ وہ ایک قدیم اور جمالت کے دور میں ایسے انکشافات اور پیشگوئیاں کرتا رہے جن کا ثبوت آنے والے سال اور صدیاں فراہم کرتے رہیں۔ آخر کار ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن عظیم اللہ کی طرف سے ہی انسانیت کی

اور رہنمائی کیلئے ایک تحفہ ہے اور وہی وہ ذات ہے جس کی نظر سے کائنات کا کوئی راز نہیں ہو سکتا اور اپنی لکھی ہوئی تقدیروں سے غولی واقف ہے کسی وجہ سے اس نے جو اپنی کتاب میں بیان فرمایا، اس کی پیشگوئیاں اور اعلانات کے عین مطابق رونما ہو کر رہا۔

☆☆☆

## باب سوئم عمومی وواقعاتی شہادتیں

دجال، امام مہدی، حضرت عیسیٰ کا نزول، یاجوج ماجوج، پوم حساب و کتاب کا روپذیر ہونا اور دیگر کئی ایسی پیشگوئیاں ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئیں تاہم اب ہم ان چند قرآنی انکشافات اور پیشگوئیوں کا مطالعہ کرتے ہیں جنہوں نے حرف بحرف پورا ہو کر قرآن کے الہامی ہونے پر ناقابل تردید ثبوت فراہم کئے۔

### لاشِ فرعون

تورات اور قرآن کے مطابق جب فرعون ”منفطہ“ (Meneptah) اپنے لشکر کے ہمراہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی غرض سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے صحیرہ قلمزم تک پہنچا تو اللہ کے حکم کے مطابق صحیرہ قلمزم درمیان سے پھٹ گیا اور آپ اور آپ کے ساتھی سمندر پار کر گئے لیکن جو منی فرعون اس کے پیچھا، سمندر آپس میں مل گیا اور وہ اس میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن اور تورات کے علاوہ کسی اور آسمانی کتاب یا صحیفے میں موجود نہیں ہے اور تورات میں بھی یہیں تک بیان ہے لیکن قرآن نے اس واقعے کے ذکر کے فوری بعد ایک ایسی پیشگوئی کا انکشاف کیا جس پر دنیا تیرہ سو سال تک حیران رہی۔

ان واقعے کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔

ما وزنا بنی اسرائیل البحر فا تبعهم فرعون و جنوده بغيا و عدوا  
حی اذا ادركه الغرق قال امن انہ لا اله الا الذی امننت به بنو  
اسرائیل و انامن المسلمین ؕ آلن وقد عصیت قبل و كنت من  
المسدين ۔ (یونس۔ 90,91)

”اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکش  
ان ظلم سے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ ڈوب گئے۔ فرعون بولا، میں ایمان لاتا ہوں کہ  
اے اللہ کے کوئی سچا معبود نہیں اور اسی پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان  
لائے۔ پہلے (وہ) نافرمان اور فسادی تھا تو اب ناامید ہو کر ایمان لاتا ہے۔“

اس کے فوری بعد یہ انکشاف فرمایا،

والیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک اية و ان کثیرا من الناس عن  
اتنا لغفلون (یونس۔ 92)

”آج ہم تیری لاش کو چالیں گے کہ تو پچھلوں کے لیے ایک نشانی بن کر رہ جائے  
اور لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے غافل ہے۔“

یہ آیت جلیلہ تقریباً تیرہ سو سال تک اہل علم کیلئے ایک معمہ بنی رہی اور مسلم  
ماماء و مفسرین اس کی وضاحت کے معاملہ میں بے بس رہے بالآخر تیسویں صدی کے آغاز  
1907ء میں انگریز ماہر علم التشریح سر سمٹھ (Sir Graffan Elliot Smith) کو  
منفطہ کی لاش جزیرہ نما سینا کے ساحل پر موجود گرم پانی کے چشمے جسے لوگ ”حمام  
فرعون“ کے نام سے پکارتے ہیں، سے ملی تو اس آیت کا مفہوم واضح ہو گیا۔ ایک اندازے

کے مطابق یہ فرعون 1263 قبل مسیح میں غرق ہوا تھا یوں آج تک اس واقعہ کا  
3263 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں رکھی  
ہوئی ہے اور اس کا نظارہ لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ کر چکے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے  
دعدے کے مطابق آج تک فرعون کی لاش کو ہمارے لئے نشانی کے طور  
پر چھائے رکھا۔

تتلو علیک من نبا موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون (تقصص-3)  
”ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کی سچی باتیں اہل ایمان کی خاطر بتاتے ہیں۔“

اہل علم و عقل خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ایسا انکشاف، قرآن کے علاوہ کسی اور  
کتاب کا خاصہ ہو سکتا ہے؟

انکشاف سے مراد کسی چیز کا وہ علم سامنے لانا ہے جو مقدر ہو چکا ہو یا موجود تو  
ہو پر ہمارے لیے نامعلوم یا بعید از قیاس ہو۔ اور فرعون کی لاش کے بارے میں کوئی انسان تو  
نہیں مگر وہ ذاتِ حق، جس نے اسے محفوظ کیا ہوا تھا، جانتی تھی اور وہ ذاتِ سوائے اللہ کے  
اور کون ہو سکتی ہے۔

قرآن میں فرعون اور موسیٰ کا واقعہ اہل تحقیق کیلئے جائے سخن اور ایمان والوں کیلئے  
واقعاتی استدلال ہے جو اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ قرآن علوم کائنات کا ایسا سمندر ہے  
جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اور اس کی صحیح پہچان ذاتِ محمد ﷺ کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں۔

☆☆☆

## روم کی حیران کن فتح

616ء میں فارس (ایران) اور روم کے مابین ہونے والی جنگ میں روم کو شکست  
ملی اور روم کے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو رنج ہوا جبکہ کفار مکہ نے اپنے  
ملک فارس کی فتح پر جشن منائے۔ مسلمانوں کی اس افسروگی پر درج ذیل آیات نازل  
ہوئیں۔

ملت الروم یوفیٰ اد فی الارض و ہم من بعد غلبہم سیتغلبون ☆ فی  
سینین للہ الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون  
(روم-42)

”پاس والی زمین میں رومیوں کو شکست ہوئی اور اپنی اس مظلومی کے بعد عقرب  
پندرہ سوں میں پھر غالب ہو جائیں گے۔ آگے اور پیچھے صرف اللہ ہی کا حکم چلتا ہے  
اور اس دن ایمان والے خوش ہو گئے۔“

خبر وحی کے فوری بعد حضرت ابو بکر صدیق نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ  
ایمان کو بہت جلد شکست کا سامنا کر پڑے گا۔

چونکہ ایرانیوں کی اس وقت کی عظیم ترین طاقت کو دیکھتے ہوئے یہ بات قطعی  
ناممکن اور مضحکہ خیز لگتی تھی اس لئے کفار نے آپ سے ٹھنڈے شروع کر دیئے۔ اہل بن خلف  
ہنے لگا، دس دس اونٹنیوں کی شرط لگا لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ شرط حرام تھی لیکن دین  
نہ اور قرآن کی سچائی ثابت کرنے کیلئے آپ راضی ہو گئے اور شرط کی معیاد تین سے چھ برس

تک رکھی۔ جب یہ خبر نبی پاک ﷺ تک پہنچی تو آپ نے ابو بکرؓ سے فرمایا کہ آمت مذکورہ میں لفظ 'بضع' سے مراد تین سے نو برس ہے۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ دوبارہ الی بن خلف کے پاس گئے اور معیاد بڑھا کر دس کی جگہ سو اونٹیاں شرط کے طور پر مانیں۔ ٹھیک سات برس بعد روم اور ایران کے درمیان خونریز معرکہ ہوا اور رومی حیرت انگیز طور پر فاتح قرار پائے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔

جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیقؓ، الی بن خلف کے وارثوں کے پاس گئے کیونکہ الی تب تک مر چکا تھا، انہوں نے شرط پوری کر دی اور آپؐ نے حضور ﷺ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تمام اونٹیاں غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیں۔

ایسی پختہ شہادت آجانے کے بعد تو سوچو بھو رکھنے والے لوگ حیرت سے چلا اٹھتے ہیں،

تنزیلاً ممن خلق الارض والسموات العلیٰ (طہ-4)  
 ”یہ کتاب (قرآن) ارض و سماء کے خالق کی اتاری ہوئی ہے۔“

☆☆☆

## وعدہ خلافت و حکومت

ہجرت کے پانچویں سال تک مسلمانوں کا اثر و رسوخ صرف مدینہ کی حد تک تھا۔

دو اعراب مسلمانوں کے خلاف تھا اور قیصر و کسری جیسی اس وقت کی سپر طاقتیں بھی عربوں کے ساتھ تھیں۔ اس وقت تک نہ تو مسلمانوں نے خیبر فتح کیا تھا اور نہ ہی مکہ اور طائف۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے حالات میں مٹھی بھر مسلمانوں کا ان تمام سلطنتوں کو پھچاڑ دینا ناممکن اور قطعی مستحکم خیبر نظر آتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما کر دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔

وعد اللہ الذین امنو منکم و عملوا الصلحت لیستخلفنہم فی الارض  
 کما استخلف الذین من قبلہم (نور-55)

”اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اللہ انکو زمین میں ضرور خلاف اور حکومت عطا فرمائے گا جیسے ان سے پہلوں کو دی تھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔“

آئیے اور اسی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ نے جس وعدے کا انکشاف فرمایا تھا

کیونکر پورا فرمایا؟

مذکورہ وعدے کے بعد اور وصال رسول ﷺ سے پہلے یمن سے اردن اور فلسطین

فارس سے حیرہ، قلمزم تک کا تقریباً چودہ لاکھ مربع میل رقبہ اسلامی قبضے میں آچکا تھا۔

آپ ﷺ کے بعد 635ء میں دمشق، 636ء میں حمص و فلسطین، 638ء میں شام، 641ء میں مصر، 642ء میں ایران، 647ء میں افریقہ کے تمام شمالی ساحلی علاقے، 674ء میں خزار اور سمرقند اور 711ء میں تمام ہندوستان (چین) کے علاقے مسلمانوں کی تحویل میں آئے۔ تاریخ کے مطابق سکندر اعظم کے بعد روئے زمین کا دوسرا بڑا فاتح مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمرؓ ہیں۔ کہ تقریباً آدھی دنیا آپ کے قدموں تلے تھی۔ یوں اللہ نے حسب وعدہ ایمان لانے اور صالح اعمال کے بدلے میں مسلمانوں کو اپنی زمین پر اتنی بڑی خلافت عنایت فرمائی لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑا تو ذلت کا شکار ہو گئے۔ اس کے باوجود آج بھی دنیا کے نقشے پر سب سے زیادہ ملک مسلمانوں کے ہی ہیں۔ یوں اللہ نے اپنی کتاب میں جو وعدہ کیا اس کو لفظ بلفظ پورا فرمایا اور یہ کیسے نہ ہوتا؟

واللہ غالب علی امرہ و لکن اکثر الناس لا یعلمون (یوسف-21)  
 ”اللہ اپنی بات کو قوت اور غلبے سے پورا کرتا ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔“

☆☆☆

## غلبہ دینِ حق

پروردگار عالم نے فتح مکہ سے دو سال قبل یہ گواہی دی۔

هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ الدین کلہ و کفی  
 باللہ شہیدا (سج-28)

”وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام دیگر  
 اہل پر غالب کرے اور اللہ ہی اس بات کا گواہ کافی ہے۔“

رب نے جب اس گواہی کا انکشاف فرمایا تو مسلمانوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ  
 تھی جبکہ آتش پرست، بت پرست، الہیان کتب اور دیگر مذاہب کے افراد لاکھوں میں تھے۔  
 ان حالات میں کسی نئے دین کا پھیلنا ناقابل محسوس ہوتا تھا لیکن آپ ﷺ کا دین حق و سچ پر  
 مبنی تھا اس لیے اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا (پچھلے مضمون میں مسلمانوں کی فتوحات کا ذکر  
 موجود ہے) مسلمان جہاں کہیں بھی گئے، لوگ ان کے حسن مذہب اور حسن سلوک کو دیکھ  
 کر دھڑا دھڑا اترہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔

الخصفہ آج آپ نقشہ زمین پر غور کریں تو اس میں ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی جہاں  
 اسلام موجود نہ ہو۔ اس کے بیروکاروں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں  
 ہے۔ ایشیا، اور افریقہ تو پہلے ہی دین حق کے گردیدہ ہو گئے تھے یورپ، آسٹریلیا اور امریکہ میں  
 جس تیزی سے اسلام پچھلے دو عشروں سے پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے تمام دنیا کے سامنے ہے۔

## انجامِ ابو لہب

ابو لہب اسلام اور مسلمانوں کے بدترین دشمنوں میں سے ایک تھا۔ اس نے ایک ایسی جماعت تیار کر رکھی تھی جس کا کام صرف اور صرف حضور ﷺ اور صحابہ کرام کو تنگ کرنا تھا۔ یہ لوگ نماز پڑھتے وقت بیٹھاں جاتے، شور مچاتے اور آوازے کستے تھے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے ذمے روزانہ حضور ﷺ کے راستے میں کانٹے پھٹانے کا کام تھا جسے وہ باقاعدگی سے سرانجام دیا کرتی تھی۔

ابو لہب کے انجام سے قبل ایک امر کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا مستقبل (آئندہ) کے زمانے میں روپذیر ہونا اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا ہے، کا ذکر ماضی کے صفحے میں ملتا ہے۔ جیسے

افتوت الساعة وانشق القمر (تر۔ 1)

”قیامت پاس آگئی اور چاند پھٹ گیا۔“

یعنی جب قیامت آئے گی تو چاند پھٹ جائے گا۔ مستقبل کے واقعے کا ذکر ماضی میں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مکالمہ قیامت کے روز ہو گا، بھی سورہ مائدہ میں (114-119) ماضی کے صفحے میں بیان فرمایا گیا ہے۔

جب ابو لہب کے سیاہ کرتوت حد سے بڑھ گئے تو نیچے دی گئی آیات نازل ہوئیں۔

لدا ابي لہب و تب ما اغنى عنه ماله و ما كسب سيصلى ناراً  
اب لہب و امراته حمالة الحطب في حيدها حبل من مسد  
(لہب۔ 1-5)

”ابو لہب کے دونوں ہاتھ بے کار ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اسے اس کی دولت نہ ملی، وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں جلتے گا اور اس کی بیوی کے گلے میں کھجور کی کھال کی پٹے لگی۔“

یہ آیات ابو لہب کے انجام سے بارہ سال قبل نازل ہوئیں۔ بارہ برس بعد واقعہ بدر آیا تو ابو لہب نے اپنی طرف سے ایک سیاہ فام ٹام کو لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ کفار کی ہمت کی خبر جب اس تک پہنچی تو اس کا دائمی توازن بچو گیا اور جسم پر کوڑھ نمودار ہو گیا۔ ام ایمناء بے کار ہو گئے اور آخر کار سسک سسک کر تنہائی میں مرا۔ اس کے بعد مہنی روز اس کی لاش پڑی سڑتی رہی اور بالآخر محلے والوں نے حبشہ کیوں سے اٹھا کر دفن کر دیا۔

ربا ام جمیل کا بیان تو ایک روز جب وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر گھر جا رہی تھی کہ چلتے چلتے ٹھوکر لگی اور اس کی رسی سرک کر اس کے گلے میں پھنس گئی جس سے وہ تڑپ تڑپ کر ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے منکشف یہ پوشھوئی حرف۔ حرف درست ثابت ہوئی۔

## ابو جہل کی داستان عبرت

ابو جہل کی اسلام دشمنی سے تمام دنیا واقف ہے۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کو خانہ میں عبادت سے روکتا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت انتہائی قلیل تھی اس لیے اس کا کچھ بگاڑ نہ سکتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے آنحضرت ﷺ کو سرعام دھمکی دی، اگر آئندہ کعبے میں داخل ہوئے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہو گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

ارء یت الذی ینہی ☆ عبدا اذا صلی ☆ ارء یت ان کان علی الہدیٰ من او امر بالتقویٰ ☆ ارء یت ان کذب و تولى ☆ الہ یم علم بان اللہ یری ☆ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ☆ نا صیہ کا ذیۃ خاطئۃ ☆ فلیدع نادیہ ☆ سندع الزبانیہ ☆ کلا لا قطعہ و اسجد و اقرب (علقہ-19۳9)

”کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہمارے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ کیا

اس نے کبھی نہیں سوچا کہ شاید وہ بندہ ہدایت پر ہو اور روکنے والا جھوٹا اور سرکش۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ سب دیکھتا ہے اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کو جھوٹ اور خطاکاری پر پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اس سے کہنا کہ تب وہ اپنے مددگاروں کو بلا لے اور ہم اپنے سپاہیوں کو بلا لیں گے۔ (اے رسول) اس کی بات نہ مانو بلکہ سجدے میں گر کر ہمارے قرب

صل کر۔“

ان آیات کا بغور مطالعہ کرنے سے ہماری نظر اللہ کی اس پیشگوئی پر جا سکتی ہے کہ اگر مل باز نہ آیا تو ہمارے سپاہی اسے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹیں گے۔ اللہ کا یہ انکشاف وقت پورا ہوا جب غزوہ بدر کے موقع پر دونوں جوان بھائیوں معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو قتل ڈھونڈ کر قتل کیا اور بعد میں اسے بالوں سے پکڑ کر خدمت رسول ﷺ میں پیش کرنے کی خاطر دور تک تھسیٹتے چلے گئے لیکن رستے میں ان کی مدد بھیجی ابو جہل کے بیٹے عمرہ اس کے ساتھیوں سے ہو گئی جس میں دونوں بھائی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عبد اللہ بن مذہب سے گزرے تو ابو جہل کی لاش پڑی دیکھی تو اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا لیکن قدموں کے بعد اس خبیث کا سر ہی جسم سے الگ کر کے خدمت اقدس ﷺ میں لے آیا مناسب خیال کیا۔ ابو جہل چونکہ اللہ کے خرد دار کرنے کے بعد بھی باز نہ آیا اس لیے بالکل نالایق انجام کو پہنچا جس طرح اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں تصریح فرمائی تھی اور ایسا دل کرنے ہوتا کہ،

قل انزلہ الذی یم علم السرفی السموت والارض (فرقان-6)

”(اے رسول) کہ دو کہ یہ کتاب اس رب کی اتاری ہوئی ہے جو زمین اور آسمان

کے تمام رازوں سے باخبر ہے“

☆☆☆

## یہودیوں سے متعلق انکشافات

نزل قرآن کے وقت قرآن کے متعلق بار بار اعتراضات اٹھانا یہودیوں کی پسندیدہ عادت تھی۔ ہر وقت قرآنی آیات کو جھوٹا (نعوذ باللہ) ثابت کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ خاص اعتقاد تھا کہ جنت صرف اور صرف ان کے لیے تخلیق کی گئی ہے اور دیگر کوئی قوم حتیٰ کہ مسلمان بھی اس میں داخلے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔

اس دعویٰ پر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو کڑی صورت حال سے دوچار کر دیا۔

قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صدقين ﴿٩٥﴾ ولن يتموه ابدًا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظلمين (بقرہ 94، 95)

”تم ان سے کہو کہ اگر پچھلا گھر (جنت) اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہے اوروں کے لیے نہیں تو اگر تم چچے ہو تو موت کی آرزو کرو لیکن اس سے پہلے تک وہ جو بد اعمالیاں کر چکے ہیں ان کی وجہ سے وہ ہرگز ایسی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔“

عام تاریخ عرب تو ایک طرف یہودیوں کی اپنی تاریخ بھی شاید ہے کہ وہ اگرچہ ہر وقت قرآنی آیات کی (نعوذ باللہ) تکذیب میں لگے رہتے تھے اس کے باوجود وہ موت کی تمنا

یکے جس کی دو جہات سامنے آتی ہیں۔

اول یہ کہ وہ دل ہی دل میں قرآن کی حقیقت اور اللہ کی دھمکی سے آگاہ تھے۔ اور دوم یہ کہ ان کا دعویٰ قطعی جھوٹا تھا۔

ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ موت کی آرزو کرتے (جب کہ قرآن میں ارشاد تھا کہ وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے) اور بعد میں کہتے، دیکھو محمد کا قرآن (نعوذ باللہ) سچ نہیں ہے، ہم نے تو اس کے برعکس کر دکھایا لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ حدیث رسول ﷺ ہے کہ اگر وہ موت کی خواہش کرتے تو دنیا پر ایک بھی یہودی زندہ نہ چلتا۔ اور یہی وہ وجہ تھی جس کے باعث وہ یہ خواہش نہ کر سکے اور قرآن کا صدق اور وحی ثابت ہو کر رہے۔ ایک اور جگہ فرمایا

سيقول السفهاء من الناس ماولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها (بقرہ 142)

”اب یہ جاہل لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو پہلے قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے۔“

اس بار یہودیوں کو قبلے کی تبدیلی پر خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے قرآن کے فرمان سے قطع نظر قبلے کی تبدیلی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یوں (نعوذ باللہ) قرآن کی حقانیت مشکوک ہے لیکن ہوا وہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح فرما دیا تھا اور یہودیوں نے قبلے کی تبدیلی پر شدید احتجاج کیا۔ یہودیوں نے ہر بات فرمان قرآن کے مطابق ہی کیونکر پوری کی؟ اس کا جواب درج ذیل آیت میں ملتا ہے۔

واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه (انفال-24)

”اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم انسان کے دل کے ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے۔“

اللہ اپنے احکام پر عمل کروا کر اپنی تنزیل (قرآن) کو ایسے مجزول ثابت کرتا ہے۔

ﷺ

## آسمانی بجلی

مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک کے پاس آنحضرت ﷺ نے تبلیغ حق کے لیے چند صحابہ کرام کو بھیجا تو وہ ان سے ازراہ تمسخر اوٹ پناگ باتیں پوچھنے لگا کہ اللہ کون ہے؟ کیسا ہے؟ لوہے کا بنا ہے یا سونے چاندی کا؟ صحابہ برہم ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دوبارہ جانے کا حکم صادر فرمایا۔ اس دفعہ بھی اس نے وہی رویہ اختیار رکھا تو صحابہ رنجیدہ حالت میں پلٹ آئے۔ تیسری مرتبہ پھر حکم ہوا کہ جاؤ اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یقیناً اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ تھی۔ اس مرتبہ وہ تنگ آگیا اور بد زبانی اور گالی گلوچ پر اتر آیا۔ اسی اثناء میں صحابہ کرام کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بدلی آئی جس میں اچانک ایک گرج پیدا ہوئی اور اس کی بجلی اس مشرک کے سر پر آن پڑی جس سے وہ پل بھر میں جل کر راکھ ہو گیا۔ صحابہ کرام دوڑے دوڑے آنحضرت کے پاس پہنچے تاکہ صورتحال عرض کر سکیں۔ ابھی زبان کھلی ہی نہ تھی کہ نبی ﷺ نے فرمایا تم جس گستاخ کے پاس گئے تھے وہ

اس لڑاکھ ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام ششدر رہ گئے تو استفسار پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابھی اس لیے یہ آیت لیکر آئے تھے۔

سبح الرعد بحمده و الملائکته من خبثه و يرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء و هم یجادلون فی اللہ و هو شدید المحال (رعد-13)

”اور گرج اللہ کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے۔ اور اللہ

یک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈالتا ہے۔ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھڑپا لیتے ہیں اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔“

ﷺ

## پانچ دشمنانِ دین

کفار کے پانچ سردار عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، اسود بن یعقوب، حارث بن قیس اور ولید بن مغیرہ، ہر وقت حضور اکرم ﷺ کا مذاق اڑاتے اور تنگ کرتے رہتے تھے۔ ایک روز آپ مسجد حرام میں تشریف لے گئے تو یہ پانچوں خبیث بھی پہنچ گئے اور طعن و تشنیع بننے لگے اس پر حضرت جبریل آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پتلی کی طرف، عاص کے پاؤں کی طرف، اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن یعقوب کے پیٹ کی طرف اور حارث کے سر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا

کہ جلد ہی اللہ ان کے شر دور فرمائے گا اور ساتھ ہی ذیل کی آیات پہنچائیں۔

انا كفىٰ بكم المستهزء بن ﴿۶﴾ الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون (حجر۔ 95,96)

”بیٹھک ان مذاق اڑانے والو کے لیے آپ کی طرف سے ہم ہی کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود شریک ٹھہراتے ہیں تو بہت جلد یہ لوگ انجام کو پہنچ جائیں گے۔“ چنانچہ ٹھوڑے ہی عرصے بعد یہ گستاخ طرح طرح کی بلاؤں کا شکار ہوئے۔ ولید بن مغیرہ کی پنڈلی میں ایک تیر فروش کی دوکان کے پاس سے گزرتے ہوئے حیران کن انداز میں ایک تیر گھس گیا۔ لاکھ علاج کیے پر زخم بجو تا ہی چلا گیا اور آخر اسی زخم کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر بلاک ہوا۔

عاص کے پاؤں میں کانٹا بھجا جس سے اس کا پاؤں زہر بادل ہوا اور اونٹ کی طرح موٹا ہو گیا اور وہ اسی کراہت میں چل رہا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد اٹھا کہ وہ بے قراری میں اپنا سر دیوار سے ٹکرایا کرتا اور کہا کرتا تھا،

”مجھے محمد نے قتل کیا ہے“

اور یک دم ساری اس کو لے ڈوٹی۔

اسود بن یفوت کو استقاء ہوا جس سے اس کا پیٹ پھول گیا اور اسی مرض میں

کمزور ہو کر واصل جہنم ہوا۔

مارٹ بن تمیس کی ناک سے خون اور پیپ بہنا شروع ہو گئی اور آخر کار اسی حال میں

موت لو پہنچا۔

☆☆☆

## قرآن سے متعلق وعدے

انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون (حجر۔ 9)

”بیٹھک ہم نے اسے (قرآن کو) نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔“

ان علینا جمعه وقرانه ☆ فاذا قرانه ☆ ثم ان علینا بیانہ (قیامہ۔ 17-19)

”بیٹھک اس کو اکٹھا کرنا (مدون و مرتب کرنا) اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے پھر جب

ہم اس کو (جبریل کے ذریعے) پڑھیں تو ساتھ ساتھ پڑھو۔ پھر بیٹھک اس کی باریکیوں کو

ظاہر کرنا (تفسیر سامنے لانا) بھی ہمارے ذمے ہے۔“

درج بالا آیات میں قرآن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے تین وعدے بیان فرمائے ہیں

1۔ یہ کہ اللہ خود ہی قرآن کی حفاظت کا کام سر انجام دے گا۔

2۔ یہ کہ اس کو اکٹھا کرنا اور ترتیب دینا اللہ کی اپنی ذمہ داری ہے۔

3۔ اور یہ کہ اس کی باریکیوں یعنی تفسیر کے بیان کا بندوبست بھی وہی کرے گا۔

قرآن کے تحفظ و ترتیب اور تفسیر سے متعلق اللہ نے کیا کیا ظاہری

اسباب تخلیق فرمائے، ان کے ذکر سے قبل یہ بیان کرنا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات میں ہونے والا ہر عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا صرف اور صرف اللہ کی توفیق و رضا سے سرانجام پاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم سانس لیتے ہیں یا آنکھ تک چھبھتے ہیں تو اسی کی توفیق و رضا سے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے وعدوں کو سچ کرنے کیلئے ایسے حالات و واقعات پیدا فرماتا ہے کہ وہ پوری غلبت سے ثابت ہو کر رہتے ہیں۔ وہ ہم انسانوں میں سے ہی رسولوں، نبیوں، ولیوں، کاتبوں، خطیبوں سپہ سالاروں اور ہر شعبہ کے حامل لوگوں کو جن کر ان کے ذریعے سے اپنے فرمان کی تکمیل کر لیتا ہے۔ جیسے قرآن کا ہم تک پہنچنا حضور ﷺ کے درمیانی واسطے کی وجہ سے ممکن ہوا۔

قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا ثبوت تو یہی ہے کہ قرآن بلا کسی حرف کی کمی بیشی کے ہم تک پہنچا اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت اور ترتیب کے اسباب اللہ تعالیٰ کس کس طرح تخلیق فرمائے۔

فرمان باری تعالیٰ کی رو سے ہمارا ایمان ہے کہ حضور ﷺ قرآن کے سلسلے میں سوائے وحی کے کچھ نہ فرماتے تھے۔ سیرت و احادیث کی تمام کتابیں اس امر پر متفق ہیں کہ جبریل جب بھی کوئی آیت لے کر آتے تھے تو ساتھ ہی ہدایت بھی لاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے آگے یا پیچھے رکھ دیں۔ اس پر آپ ﷺ اپنے کاتبین کے ذریعے اس کو جڑے، چھال، پھیری، کپڑے یا کاغذ وغیرہ پر لکھوا دیتے اور حسب ہدایت رکھنے کا حکم

حضرت عائشہ کے ہاں ایک مخصوص صندوق تھا جس میں یہ تمام آیات اسی جگہ کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں۔ جس ترتیب کے ساتھ حضور ﷺ خود تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حفظ قرآن کو باعث ثواب ہونے کے ساتھ ساتھ اعزاز خیال کیا جاتا تھا۔ سال رسول ﷺ کے وقت صحابہ کی کل تعداد چار لاکھ کے قریب تھی اگر اس میں سے نصف حصے کو بھی حافظ قرآن مانا جائے تو ان کی تعداد چالیس ہزار بنتی ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جب مسلمہ کذاب کے خلاف لڑائیوں میں خانہ کی ایک کثیر تعداد شہید ہو گئی تو آپ نے حضرت عمرؓ کے مشورے پر کاتب اعظم زید بن ثابتؓ کی زیر صدارت ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے ذمے قرآن کا مکمل نسخہ تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تین سال کی محنت کے بعد انہوں نے قرآن کا ایک مکمل نسخہ تیار کر کے حضرت عمرؓ کو ہدیہ بننے کی تحویل میں دے دیا۔ حضرت عثمانؓ کے دور میں حضرت زید بن ثابتؓ کو دوبارہ طلب کر کے ان سے متعدد نقول تیار کروا کر سلطنت اسلام کے مختلف شہروں اور قصبوں میں روانہ کی گئیں۔

مشہور مستشرق سر ولیم میور لکھتا ہے،

”اس بات کے ماننے کی زبردست وجوہات ہیں کہ رسول ﷺ کی زندگی میں متفرق طور پر لکھے ہوئے نسخے صحابہ کے پاس موجود تھے اور ان پر پورا قرآن موجود تھا۔“

درج بالا حقائق کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ

1892ء	اردو ترجمہ	ابو امان عباسی
1893ء	اکسیر اعظم	میر تقی الدین مرادی
1899ء	ترجمہ وحاشیہ	راجہ رت دھلوی
1900ء	فتح المنان، بتفسیر القرآن	محمد عبدالحق حقانی
1910ء	ترجمہ وحاشیہ	میر ضامن دہلوی
1910ء	تفسیر حقانی	عبدالحق دہلوی
1915ء	ثانی	شاہ اللہ امرتسری
1925ء تقریباً	النار	یدر شید رضا مصری
1926ء	توضیح القرآن	محمد مصباح
1934ء	منظوم ترجمہ	میر انیس بیگ مرزا
1936ء	ترجمان القرآن	مولانا ابو الکلام آزاد
1937ء	ترجمہ وحاشیہ	مولانا احمد علی لاہوری
1948ء	تفسیر	انتظام علی شاہ
1950ء	انجاز قرآن	انوار نقی بلوچ شہری
1951ء	تقسیم القرآن	ابوالاعلیٰ مودودی

قرآن کو محفوظ رکھنے اور اس کو مرتب کرنے کے اسباب اور وسائل پیدا فرمائے جس کی وجہ سے یہ ہم تک بالکل اسی حالت میں پہنچا جس میں نازل ہوا تھا۔ واضح رہے کہ قرآن واد الہامی کتاب ہے جس میں کوئی رد بدل نہیں ہو سکا۔ اور کیسے ہو سکتا تھا کہ پوری انسانیت تو کیا کائنات کی ہر شے اس ذات کے وعدے کے آگے بے بس ہے۔

### تفسیر و ترجمہ

قرآن کا ترجمہ اس وقت تک سو سے زائد زبانوں میں ہو چکا ہے اور تفاسیر کی تعداد چار ہزار کے لگ بھگ ہے۔ ذیل میں چند مشہور و معروف تفاسیر کا ذکر بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے درند مترجمین و مفسرین کی تعداد ہر دن از شمار ہے۔

سال	ترجمہ و تفسیر	نام
871ء	جامع البیان، عن تاویل آی القرآن	امام محمد بن جریر طبری
1108ء	الکشاف	علامہ محمود زحمری
1307ء	منہاج الغیب	علامہ فخر الدین رازی
1800ء تقریباً	المطہری	قاضی ثناء اللہ پانی پتی
1879ء تکمیل	تفسیر احمدیہ	سر سید احمد خان
1880ء	فتح الخبیر	شاہ ولی اللہ

سید قطب شہید	فی ظلال القرآن	1955ء
غلام احمد پرویز	مفہوم القرآن	1961ء
امین احسن اصلاحی	تذکر القرآن	1967ء
مفتی محمد شفیع	معارف القرآن، احکام القرآن	1972ء

عہد حاضر میں پیر کرم شاہ الازہری کی تصنیف ”خیا القرآن“ بلند پایہ ترین تفسیر خیال کی جاتی ہے جو کہ 19 سال کی محنت کے بعد مکمل ہوئی۔ غلام مرتضیٰ ملک کی تفسیر کو بھی دور جدید میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ گنگہ زبان میں 50 تفاسیر و تراجم کا پتہ چلا ہے۔ مولانا محمد اورئیس نے پشتو میں 13 جبکہ محمد سلیم پرنسپل اور ٹیلن کالج منصورہ (سندھ) نے چھ سندھی تفاسیر و تراجم کا ذکر کیا ہے۔

یورپی زبانوں کے تراجم میں سے چند مشہور و معروف ترجمے یہ ہیں۔

مترجم	زبان	سال ترجمہ
راہب پیئر فرانسس	لاطینی	1143ء
فادر لوئس۔ مراکش	لاطینی	
فریڈرک	لاطینی	1768ء

سورہ ہود	لاطینی	1752ء
سورہ یوسف	لاطینی	1829ء
سورہ صافات	فرانسیسی	1852ء
سورہ بقرہ	فرانسیسی	==
سورہ آل عمران	فرانسیسی	==
سورہ آل عمران	عبرانی	1634ء
سورہ آل عمران	جرمنی	1752ء
سورہ آل عمران	جرمنی	1500ء کے قریب

اس کے علاوہ بے شمار آیات جو ماضی میں تفسیرات میں ان میں سے کئی کی تفسیر اور ان کو اللہ نے ایسے کھولا کہ محکمات کا درجہ اختیار کر گئیں۔ (محکمات و تفسیرات کے فرق میں پڑھیں) اور جو باقی بچ رہی ہیں انشاء اللہ ان کو آنے والے وقت میں جدید علوم سے کر دیں گئے۔ اس طرح اللہ کا تقاسیر کھولنے کا یہ اعلان پورا ہو کر رہا اور نئی چیزیں سامنے آئیں اور زمانے کے تغیرات کی وجہ سے ترجمہ اور تفاسیر میں بھی تبدیلی آتی رہی (تفصیل) اور ترجمہ و تفسیر میں پڑھیں) لیکن قرآن کی حیثیت دائمی ہے اور دائمی رہے گی اور کوئی اس کا راہ نہیں پاسکتا۔

لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

(نم مجدہ 42)

”اور باطل کو اس (قرآن) کی طرف کوئی راہ نہیں، نہ اس کے آگے اور نہ پیچھے۔ یہ خوبییوں اور حکمت والے رب کی طرف سے اتاری ہوئی (کتاب) ہے۔“

☆☆☆

## حسن الفاظِ قرآن

کلامِ الہی ہونے کے ناطے قرآنی آیات کے حسن کا بیان تو ممکن ہی نہیں پر ایک معمولی سا اندازہ اس طرح لگایا جاسکتا ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے بڑے بڑے سنگدل لوگ جدے میں گر پڑتے ہیں۔ حضرت عمرؓ جیسے سخت طبیعت سردار جن کے سامنے شیطان بھی آنے سے گریزاں ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سن کر حضرت محمد ﷺ کے قدموں میں اپنی تنگی تلواریں ڈال دیتے ہیں۔ حجاج بن یوسف جیسا جاہر حکمران جب تلاوت کرنے لگتا ہے تو لوگ دور دور سے سننے آتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چمک چمک جاتی ہیں۔ شاہ حبشہ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے اور عتبہ بن ربیعہ جیسا سنگین دشمن قرآن کو جمل، ابو سفیان اور ولید بن مغیرہ کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ محمد ﷺ کے کلام میں وہ لذت، تاثیر اور ہیبت ہے کہ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے ڈر

ہے کہ ہم پر عذاب ہی نہ آجائے۔

ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ محمد ﷺ کے کلام میں ایسی حلاوت، تازگی اور روشنی ہے

کہ کوئی اس پر غالب نہیں آسکتا۔ اور مقابلہ کرنے والا پاش پاش ہو جائے گا۔

انگلیمنڈ کا ایک پادری اس وجہ سے مسلمان ہو گیا کہ اسے خواب میں کسی بزرگ نے تلاوت کلام پاک سنائی اور وہ آیت کی کیفیت صوتی، بلاغت اور عظمتِ مضمون سے متاثر

ہوا۔

الغرض قرآن کا حسن محسوس تو کیا جاسکتا ہے پر بیان نہیں کیا جاسکتا۔ بے شمار

فکرین و علماء نے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا اعتراف کیا تاہم اختصار کی خاطر گوئے، کارلائل، سبے ڈی پورٹ اور میگزین کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہو گا۔

جرمنی کا شہرہ آفاق فلسفی گوئے رقمطراز ہے

"The Quran is a work with whose dullness the reader is first disgusted, afterwards attracted by its charms and finally ravished by its beauties".

”قرآن ایسی کتاب ہے کہ پہلے تو قاری اس سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے پھر اس

کی کشش اس کو مائل کرنے لگتی ہے اور بالآخر وہ اس کی خوبورتیوں میں کھو جاتا ہے۔“

کارل لائل لکھتا ہے،

امریکن فاضل جے اے مچینر (J.A Michener) بیان کرتا ہے۔

"The Quran is probably the most often read book in the world surely. The most often memorised, written in an exalted style. Possessing the ability to arouse its hearers to ecstasies of faith. Its rhythms have been compared to the beats of drums and the echoes of Nature".

"قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو یقیناً سب سے زیادہ پڑھی اور یاد کی جانے والی کتاب ہے اس کا انداز بیان ایسا ہے کہ سننے والا اس کی مستیوں میں کھو کر رہ جاتا ہے اس کی صوتی کیفیت کا موازنہ، دھل کی چوٹ اور فطرت کی آواز (جیسے بادل وغیرہ کی آواز) سے کیا جاتا ہے۔"

ایسی فصیح و بلیغ زبان صرف اور صرف قرآن کا خاصہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ظاہر ہے کہ عام کتاب اور قرآن میں وہی فرق ہے جو عام مصنف (انسان) اور اللہ میں۔

ابن ہشام اپنی شہرہ آفاق سیرت کی کتاب میں ایک حیران کن واقعہ قلمبند کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے۔

"The deep-hearted son of the wilderness with his beaming black eyes and open social deep soul had other thoughts in him than ambition. The word of such a man is a voice direct from nature's heart".

"شفاف صحرائے عرب کا یہ دانشمند فرزند (محمد ﷺ) جس کی کالی آنکھوں سے روشنی ٹپکتی تھی اور اس کی روح ایسی گرمی تھی کہ جس کی سوچ تک میں بھی ظاہری حرص موجود نہ تھی اور اس کی آواز فطرت کے دل کی آواز تھی۔"

جے ڈی پورٹ لکھتا ہے،

"The verses of Quran become melodious and thrilling when describing the everlasting delights of Paradise. It is more pure than the system of Zoroaster, more liberal than the law of Moses and less inconsistent with reason"

"قرآنی آیات اس وقت مزید مترنم اور سنسنی خیز ہو جاتی ہیں جب یہ جنت کی نشانیوں کے ہونے والی خوبصورتیوں کا ذکر کرتی ہیں۔ یہ نظام (جو قرآن کا عطا کردہ ہے) زرتشت کے نظام سے زیادہ پاک تر اور موسیٰ کی شریعت سے آزاد تر اور انسانی عقل سے قریب تر ہے۔"

حضور نبی کریم ﷺ رات کی تنہائی میں قرآن حکیم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات اس روح پرور تلاوت کو سننے کے لیے ابو سفیان آیا اور کمرے کے ساتھ ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ ابو جہل بھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کونے میں آگیا۔ اللہ کے کلام کے تجسس و کشش کی وجہ سے انھیں بن شریق نے بھی ایسا ہی کیا اور ہر ایک دوسرے سے بے خبر تھا۔ رات بھر یہ نورانی تلاوت نور برساتی رہی اور یہ تینوں کیف و مستی میں ڈوبے رہے یہاں تک کہ صبح ہوئی اور تینوں اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے لیکن راستے میں تینوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی جس پر ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے اور ایک دوسرے پر ملامت کی اور آئندہ ایسی محفل سے باز رہنے کا وعدہ کیا۔

دوسری رات بھی ان تینوں سے صبر نہ ہو سکا اور رات کو پھر پہنچ گئے اور دوبارہ آپس میں مل جانے پر ایک دوسرے پر لعن و طعن کرنے لگے لیکن کلام الہی کی کشش و برکت دیکھتے کہ تیسری رات بھی یہی واقعہ پیش آیا اور تب انہوں نے ایک دوسرے سے پختہ عہد کیا کہ آئندہ کسی بھی صورت میں نہ آئیں گے۔ تیسرے دن انھیں ابو سفیان کے گھر پہنچا اور اس سے پوچھا ”اے ابو حنظلہ (ابو سفیان کی کنیت) مجھے بتاؤ جو کلام تم نے محمد سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟“ ابو سفیان نے جواب دیا،

”بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور انکا مفہوم بھی مجھے معلوم ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو میں نہ تو میں جانتا ہوں اور نہ ہی مجھے ان کا مفہوم معلوم ہے“

انھیں نے کہا میرا بھی یہی حال ہے اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس جا پہنچا اور اس

بھی وہی سوال کیا۔ جس پر ابو جہل نے جمل بھن کر کہا،

”میں نے کیا خاک سنا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور بنو مناف کا جھگڑا اس پر تھا کہ تو تم کا سردار کون ہے۔ اس شرف اور سعادت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دستِ خوان کو وسعت دی اور ہر غریب مسکین کو کھانا کھلایا اور ہم نے بھی ان پر بازی لے جانے کے لیے دستِ خوان کو وسیع کر دیا اور ہر غریب مسکین کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے لوگوں کے بوجھ اٹھائے اور ہم نے بھی مقابلے میں ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنی فیاضی سے مانگنے والوں کی جھولیاں بھریں تو ہم نے بھی ان سے سبقت لے جانے کے لیے کوشش میں سخاوت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور جب ہم دوڑ کے دو گھوڑوں کی مانند ہو گئے تو انہوں نے اچانک اعلان کر دیا کہ ہم میں سے ایک شخص کو نبوت ملی ہے اور اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے تھے؟۔ خدا ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے۔“

یہ سن کر انھیں اٹھا اور ابو جہل کو اس بے چینی کی حالت میں بھوڑ کر چلا گیا۔

☆☆☆

## تاریکی سے اجالا

ارشادِ خداوندی ہے،

کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمت الی النور (ابراہیم-1)

”(اے رسول) ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں

لے جاؤ۔“

تاریخ میں جھانکنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ اور قرآن کی تعلیمات نے اس وقت تک اربوں بسکہ کھریوں افراد کو کفر و ذلالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و یقین اور علم و سکون کے اجالوں میں لاکھڑا کر دیا ہے۔ جمالت 'برائی گناہ تکلیف' نفرت، ظلم و جبر، لوٹ کھسوٹ، منافقت اور بے سکونی وغیرہ تمام تاریکی اور اندھیرے سے منسوب ہیں جبکہ علم 'اچھائی' نیکی، سکھ، پاکیزگی، روح و جسم، نفاست، پیار و محبت، بھائی چارہ و خلوص، دیانتداری و پاکبازی اور سکون قلب سب کو اجالے یا روشنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ نزول قرآن سے پہلے کی صورت حال کیا تھی اور نزول قرآن کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں۔ اس کتاب کے منجانب اللہ اور وحی ہونے کی اس سے بڑی شہادت اور کیا ہوگی کہ اس نے انسانیت کے تمام تاریک راستے اجالے کی طرف موڑ دیے۔ یہ سب کمال قرآن اور مجسم قرآن (حضرت محمد ﷺ) کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔

☆☆☆

## ندائے ابراہیم

جب حضرت ابراہیم اور آپ کے بچے حضرت اسمعیل کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا۔

و اذن فی الناس بالحق یا قو ک رجلا و علی کل ضامر یا تین من کل  
وج عمیق (رج۔ 27)

”لوگوں کو حج کے لیے پکارو! لوگ دور دراز راستوں سے پیدل اوتھیں اور  
(دیگر) دہلی پٹی سوار یوں پر آئیں گے۔“

تعمیل حکم کے لیے آپ ایک بڑے پہاڑ ”ابو قیس“ پر چڑھے اور پکار شروع کی،

”اے لوگو! اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے ہر سال حج کے لیے آیا کرو“ ظاہر اس وقت

آپ کے مخاطبین قبیلہ بنو جرہم کو چند لوگ تھے۔ مفسرین عظام کے مطابق آپ کی یہ ندا

اللہ تعالیٰ نے تمام آنے والے لوگوں کی ریحوں تک کو سنوائی اور جس روح نے ”اللہم

لیسک“ کہا اس کو حج کی سعادت نصیب ہوئی یا ہوگی اور جس نے دوبار لیک کی، وہ دوبار حج کا

فریضہ انجام دے گا۔

اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ انکشاف فرمایا ہے کہ لوگ دور دراز علاقوں سے

پیدل اور سوار یوں پر حج کے لیے آیا کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال دنیا کے کونے

کونے سے تقریباً بیس لاکھ لوگ سالانہ فریضہ حج ادا کرتے ہیں اور بے شمار سعادت، عمرہ اور زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ یوں مشارق و مغارب کی پناہیوں میں بستے ہوئے مسلمان بیت اللہ پر رہنے والے انوار و تجلیات سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے اور پیشگی علم کے تحت نہ صرف اس بات کا اعلان فرمایا بلکہ اس کو پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دکھایا۔ یہ اعزاز و اعجاز صرف قرآن ہی کو حاصل ہو سکتا ہے جس کی شان نزول میں فرمایا گیا ہے۔

تنزیل الكتب لا ريب فيه من رب العلمين (مجدہ-2)

”بے شک یہ کتاب (قرآن) تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔“

☆☆☆

## احسانِ الہی

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایات ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے نبی اکرم ﷺ اور آپ کے پیچیدہ پیچیدہ صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت دی اور یہ خفیہ سازش تیار کی کہ کھانے کے دوران ہی (نعوذ باللہ) آپ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں پر اچانک حملہ کر کے ختم کیا جائے مگر عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے جبریلؑ کے ذریعے اپنے حبیب مکرم ﷺ پر یہ سازش منکشف فرمادی اور بعد میں اس کا ذکر اپنی گراں قدر تنزیل قرآن حکیم

میں کچھ اس طرح فرمایا۔

يا ايها الذين امنوا اذكرو نعمت الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم  
ايد يهم فكف ايد يهم عنكم واتقوا الله وعلی الله فليتوكل المؤمنون  
(ماکدہ-11)

”اے ایمان والو! اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر (حال ہی میں) کیا جب ایک گروہ نے دست درازی کا ارادہ کیا مگر اللہ نے تم پر ان کے ہاتھ اٹھنے سے (پہلے ہی) روک دیئے اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو اور ایمان والوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔“

☆☆☆

## اعلانِ موسیٰ

ارشاد ہے۔

قال عسی ربکم ان یهلك عدوکم و یتخلفکم فی الارض فینظرو کیف  
تعملون  
(اعراف-129)

”موسیٰ نے) کہا، قریب ہے وہ وقت جب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیا جائے گا اور تم کو زمین پر خلیفہ بنا دیا جائے گا تاکہ تمہارا رب دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔“

تاریخ گواہ ہے کہ خلافت کا یہ دعویٰ پیغمبر خدا حضرت موسیٰ نے اس مشکل

ترین وقت میں کیا جب آپ اور آپ کے بھائی ہارون اکیلے، بے زور اور بے آسرا فرعون کے دربار میں کھڑے تھے۔ فرعون کے بلائے ہوئے جادو گروں کو شکست ہو چکی تھی اور وہ موسیٰ کو جادو گر کے بجائے اللہ کا نبی مان کر ایمان لائے تھے۔

موسیٰ علیہ السلام کا یہ اعلان پروردگار عالم نے بہت ہی قریب کے زمانے میں پورا کیا تھا اور فرعون (منفطہ) کو غرق کر کے موسیٰ اور آپ کی قوم کو چالیا گیا تھا۔ (تفسیراً "لاش فرعون" میں پڑھیں)

☆☆☆

## حق آیا، باطل مٹا

ایک ایسے وقت میں جب چار سو باطل و کفر کا غلبہ دکھائی دیتا تھا اور غلبہ حق و اسلام کے آثار دور دور تک بھی نہ دکھائی دے رہے تھے۔ اللہ نے اس پیشگوئی کا انکشاف فرمایا۔

وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً (بنی اسرائیل۔ 81)

"اور (رسول) کہہ دیجئے کہ حق آگیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ بیشک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔"

ایسے حالات میں اللہ کا یہ اعلان باطل پرستوں کو مضحکہ خیز لگا اور انہوں نے اسے ٹھنڈوں سے اڑا لیا۔ مگر ابھی نو برس ہی گزرے تھے کہ اللہ کے رسول ﷺ تاریخ کی حیثیت

سے مکہ میں داخل ہوئے اور کعبہ کے اندر جا کر اس باطل کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جو کہ تین سو ساٹھ ہفتوں کی شکل میں وہاں موجود تھا۔

ناری شریف میں ہے کہ جب آپ ﷺ بتوں پر ضرب لگاتے جاتے تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری تھے۔

"جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً جاء الحق و ما يبدي الباطل وما يعيد"

☆☆☆

## اختلاف ترجمہ و تفسیر

قرآن کی معجزانہ اور فصیح و بلیغ زبان ہی اس کے الہامی ہونے کی ناقابل تردید شہادت ہے کہ اسکو مکمل طور پر سمجھنا انسانی ہنس سے باہر ہے۔ ہر زمانے کے ترجمے اور تفسیر میں فرق محسوس کر کے بردر میں ہر نئے مفسر نے اپنی دانست میں بہتر انداز میں کوشش کی۔ یوں تراجم و تفسیر کی کثرت ہی اس بات کا ثبوت قرار پائی کہ انسان قرآن کو حتمی طور پر سمجھنے سے ہمیشہ قاصر رہا ہے۔ قرآن کی زبان ایسی ہے کہ خود عربی لغت بھی اس کے الفاظ کے مترادف الفاظ مہیا کرنے سے عاجز ہے۔ اگر قرآن کا ایک لفظ نکال کر اس کی جگہ کوئی دوسرا ملتا جلتا لفظ بھی رکھا جائے تو آیت کا مفہوم کہیں سے کہیں جا پہنچتا ہے۔ اسی لیے تو

حضور اکرم ﷺ (فداہ امی والی) نے فرمایا۔

ولا یخلق عن كثرة الرد ولا ینقضی عجاظہ

”نہ تو یہ (قرآن) کثرتِ بحث و تکرار سے پرانا ہوگا اور نہ ہی اس کے عجائبات ختم

ہوں گے۔“

اسی لیے تو واصف علی واصف لکھتے ہیں۔

”قرآن اللہ کا کلام ہے سچ ہے، حق ہے۔ تفسیر انسان کی وضاحت ہے، ممکن ہے

سچ نہ ہو۔“

ایک اور جگہ کہتے ہیں،

”قرآن کی تفسیر میں فرق ہے۔ نازل ہونے والی کتاب کی تفسیر بھی

نازل ہونے والی ہی ہو سکتی ہے۔ الہامی کتاب کی از خود تفسیر غیر معتبر ہے“

قرآن کا ترجمہ کس قدر مشکل ہے، بے شمار مثالیں ہیں تاہم طوالتِ مضمون سے

بچنے کے لیے دو تین پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

و اما تخافن من قوم خیانہ فانبذا لیہم علی سواء (انفال-58)

ہم کبھی ایسے الفاظ نہیں لاسکتے جو اس آیت کا صحیح ترین ترجمہ ہوں۔

فضربنا علی اذانہم فی الکھف سنین عددا (کھف-11)

اس فرمان کو کا حقد لفظوں میں ادا کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ پر اس کا مفہوم

ضرور معلوم کیا جاسکتا ہے۔

مندرجہ ذیل آیت کا مختلف مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے،

ووجدك ضالا فهدی (اصحی 7)

☆ اور پایا تجھ کو بھٹکا ہوا، پھر راہ دی۔ (شاہ عبدالقادر)

☆ اور پایا تجھ کو راہ بھولا، پس راہ دکھائی۔ (شاہ رفیع الدین)

☆ اور آپ کو بے خبر پایا، پس راستہ دکھایا۔ (عبدالماجد دریادائی)

☆ اور ہمیں گم راہ پایا تو کیا (تمہیں) ہدایت نہیں کی۔ (مرزا حیرت دہلوی)

☆ اور تمہیں دیکھا کہ راہ حق میں بھٹے بھٹے پھر رہے ہو تو تم کو دین اسلام کا راستہ

دکھایا۔ (ڈپٹی نذیر احمد)

☆ اور اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلایا۔

(اشرف علی تھانوی)

☆ اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی راہ دی۔ (احمد رضا خان بریلوی)

تقریباً تمام مترجمین نے لفظ ”ضالاً“ کا ترجمہ گمراہ یا گم کردہ راہ کے معنی میں لیا اور رسول

ﷺ کے بارے میں ایسے معنی اخذ کرنا صحیحاً گستاخی ہے اس لئے آخری ترجمہ معقول لگتا

ہے، تاہم یہ میری ذاتی رائے ہے آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں یہ آپ پر ہے۔ اسی طرح

انا فتحنا لك فتحنا مینا ☆ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر (نہج-1,2)

کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا گیا۔

☆ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریحاً تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آج

ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔ (شاہ عبدالقادر)

☆ تحقیق فتح دی ہم نے تجھ کو فتح ظاہر تاکہ غصے واسطے تیرے گناہ جو ہوئے تھے پہلے

گناہوں سے تیرے اور جو کچھ پیچھے ہو۔ (شاہ رفیع الدین)

☆ بے شک ہم نے تم کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ سب تمہاری اگلی پچھلی خطائیں

معاف کرے۔ (عبدالماجد دریادائی)

☆ بے شک اے نبی (ﷺ) ہم نے تم کو ایک فتح ظاہر عنایت کی تاکہ اللہ تمہارے

اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ (مرزا حیرت دہلوی)

☆ بے شک ہم نے آپ (ﷺ) کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی تمام

خطائیں معاف کر دے۔ (اشرف علی تھانوی)

☆ بے شک ہم نے تمہیں ایک روشن فتح دی تاکہ اللہ تمہارے سب سے گناہ غصے

تمہارے اگلے اور پچھلوں کے۔ (احمد رضا ریلوی)

سوائے آخری مترجم کے، دیگر مترجمین پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو (نحوذ باللہ) غیر

معصوم قرار دینے کا الزام لگا۔ ان بیانات کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ احمد رضا ریلوی کا ترجمہ

بدف تفہیم نہیں بنا۔ مختلف مکتبہ ہائے فکر کے علماء نے ان سے بھی اختلاف رائے کیا

ہے۔ چند اختلافات و مسائل سے قطع نظر ان کے ترجمے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کا پہلو کسی بھی دوسرے ترجمے سے زیادہ ملتا ہے۔ تاہم یہ ایک عالمگیر حقیقت

ہے کہ نہ تو آج تک کسی ترجمے یا تفسیر کو حتمی مانا گیا ہے اور نہ ہی مستقبل میں کوئی ایسی

مندرجہ بالا حدیث سے درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔

1- قرآن کا صحیح ترین ترجمہ و تفسیر ناممکن ہے۔

2- اس کی زبان معجز اور فصیح و بلیغ ہے۔

3- یہ اللہ کی تنزیل ہے کیونکہ مندرجہ بالا آیات ایسی ہیں کہ کوئی مصنف اپنے

متعلق ایسی سطور نہیں لکھ سکتا جن سے اس طرح کے معانی اخذ کیے جا سکیں۔ یوں یہ کسی

صورت میں بھی (نحوذ باللہ) رسول ﷺ کی تصنیف نہیں ہو سکتی۔

4- انسان کا کلام ہی انسان حرف، حرف سمجھ سکتا ہے پر یہ اللہ کا کلام ہے اور انسان اور اللہ

کے کلام میں اتنا ہی فرق ہے جتنا انسان اور اللہ کے درمیان۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی

چاہیے کہ اختلاف یا کمی پیشی ترجمہ و تفسیر میں تو ہو سکتی ہے لیکن کلام الہی میں نہیں۔

☆☆☆

## حکمت و تشابہات

قرآن میں دو طرح کی آیات بیان فرمائی گئی ہیں ایک حکمت اور دوسری تشابہات۔ محکم اور تشابہ ایک دوسری کی ضد ہیں۔ محکم پختہ اور اٹل چیز کو کہتے ہیں جس میں کسی شک و شبہ یا گمان کی گنجائش نہ ہو اور حکمت وہ آیات ہیں جن کا مضموم متعین کرنے میں کسی قسم کا شبہ محسوس نہ ہو۔ یہی نزول قرآن کی اصل بنیاد ہیں۔ چونکہ ان کا مطلب واضح ہوتا ہے اس لیے حجت اور بحث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی بھی طالب حق کے لیے یہ کافی ہوتی ہیں۔

لغوی اعتبار سے تشابہ کے معنی مخفی، مشکوک یا غیر یقینی چیز کے ہیں تشابہات ایسی آیات ہیں جن کو عقل انسانی یا تو سمجھنے سے قاصر ہے یا ان کی حقیقت ابھی تک نہیں کھلی ہو تھی اس لیے مزید وضاحت کا گمان رہتا ہے۔ اسی لیے رسول ﷺ نے فرمایا تھا کہ تشابہات کی تفصیل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حالیہ صدیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے اور انسانوں کو اس قدر عطا فرمایا کہ کئی تشابہات، حکمت میں تبدیل ہو کر رہ گئیں جیسے فرعون کے واقعے کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ۔

اليوم فننجيك بدنك لتكون لمن خلفك اية  
”آج ہم تیرے بدن کو چھالیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی بن

جائے۔“

بیسویں صدی تک یہ آیت تشابہات میں شمار ہی لیکن جب 1907ء میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو منظر عام پر لایا تو یہ حکمت کی شکل اختیار کر گئی۔ اٹھارے سے متعلق قرآنی آیت تشابہ سے محکم ہوئی۔ حرکت سورج اور حرکت زمین سے متعلق آیات کل تک تشابہات تھیں اس صدی میں حکمت قرار پائیں۔ علماء مغرب نے کہا کہ فضا میں کروڑوں شاہراہیں موجود ہیں جن پر ستارے اور سیارے محو گردش و حرکت ہیں تو یہ آیت محکم قرار پائی۔

و السماء ذات الحجب ”قسم آسمانوں کی جن پر شاہراہوں کا جال بچھا ہے۔“  
بیسویں صدی میں اس آیت (وانت من کل زوجین کوہیم۔ یعنی زمین ز اور مادہ کے جوڑے اگاتی ہے۔) کا شبہ دور ہو اوجب حیاتیاتی ماہرین نے پتہ لگایا کہ پودوں میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں۔ انسانی علم کی ترقی کیساتھ ساتھ جس طرح آیات اپنا رنگ بدلتی جا رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب قرآن کی تمام تشابہات، حکمت میں بدل جائیں گی۔ اسی لیے سر جیمز جیمز (Sir James Jeans) کہتے ہیں۔

”چالیس سال تک فلکیات پر غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس طرح ایک مصنف کو سمجھنے کے لیے اس کی کتابوں کے مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اللہ کو سمجھنے کے لیے اس کائنات کا مطالعہ ضروری ہے۔ جوں جوں ہم اللہ کی حیرت

انگیز تخلیقات پر غور کرتے جاتے ہیں توں توں ہم پر اس کی عظمت عیاں ہوتی جاتی ہے۔  
جہالت وہ مسافت ہے جو اگر اللہ اور انسان کے درمیان حائل ہو تو خدا چھوٹا لگنے لگتا ہے  
جبکہ علم وہ زینہ ہے جو ہمیں اس کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے اور اسکے پاس پہنچ کر ہم اس کے  
جلال و عظمت سے سہم جاتے ہیں۔“

نیچے دی گئی آیت کی تفسیر جدید دور میں سامنے آئی (”تین پردے“ میں پڑھیے)

يَخْلُقَكُمْ فِي بَطْنٍ اَمْهَنَكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظَمَلٍ ثَلَاثٍ  
”تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کیا اور یہ تخلیق ایک کے بعد تین  
پردوں کے بعد ہوئی۔“

قصہ مختصر یہ کہ تشابہات پوری طرح ہمارے عقل و فہم کے مطابق چونکہ کھلی  
نہیں ہوتیں اس لیے علماء سلف کا زاویہء نگاہ ہمیشہ سے کسی رہا ہے کہ ان پر ایمان لا کر ان کی  
حقیقت کا علم اللہ پر ہی چھوڑ دیا جائے۔

حضرت عمرؓ کے زمانے خلافت میں ایک شخص جس کا نام ابن صبیغ تھا مدینے  
میں آیا اور تشابہات سے متعلق لوگوں سے سوالات کرنے لگا۔ آپؐ کو خبر ہوئی تو بلا کر کھجور  
کی چھڑی سے اتارا کہ اس کے سر سے خون بہہ نکلا آپؐ نے فرمایا،

”وما يعلم تاويله الا الله“ یعنی ان (تشابہات) کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی

نہیں جانتا۔

ان مجید میں بھی اس کا ذکر مندرجہ ذیل آیت کی صورت میں ملتا ہے۔

هٰوَ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ ... وَمَا يَذْكُرُ الْاُولٰٓئِ الْبَابِ (آل عمران-7)

”وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی اس میں وہ طرح کی آیات ہیں، ایک  
نعمات جو کتاب کی اصل ہیں اور دوسری تشابہات۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں فتور ہے وہ  
نتیجے کی تلاش میں ہر وقت تشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنچانے کی  
کوشش کرتے ہیں حالانکہ ان کا علم صرف اللہ کو ہے۔ لیکن جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں  
ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور صرف غلطی ہی  
منصوحیت حاصل کرتے ہیں۔“

## تاریخی شہادتیں

باب چہارم

قرآن حکیم میں بعض ایسے قصص میان فرمائے گئے ہیں جن کو آجکل کے مادی دور کے لحاظ سے سمجھنا مشکل نظر آتا ہے جیسے

(1) طوفانِ نوح میں تمام دنیا کا ڈوب جانا،

(2) مکمل بربادی کائنات،

(3) موسیٰ کے دور میں مصر پر مینڈکوں جوڑوں اور مڈی دل وغیرہ کی بارش ہونا

اور تمام پانیوں کا خون میں بدل جانا،

(4) آندھی کا عذاب آنا،

(5) دو مشرق اور دو مغرب،

(6) آسمانی لشکر کا اہل ایمان کی مدد کرنا،

(7) پتھروں کی بارش،

(8) من و سلائی کا نزول

(9) آسمانی چنگھاڑ اور منہ کے ہل گر کر ہلاک ہونا،

(10) ہر طرف مکمل تاریکی کا پھیلنا اور

(11) صرف اونا نوح ہی روئے زمین پر باقی رہی وغیرہ۔

ایسے واقعات جو عقل سے بالاتر لگتے ہیں، اللہ کے معجزات ہوتے ہیں اور معجزہ نقل کو عاجز کر دینے والی چیز کو ہی کہتے ہیں۔ تاریخ ان قصوں اور عبرت ناک داستانوں کی ناہانت طور پر کیسے تائید کرتی ہے؟، ایک ایک کر کے مطالعہ کرتے ہیں۔ ذیل کے تقریباً تمام تاریخی حوالہ جات امینٹھول ویلیکو و سکی (Immanuel Velikovsky) کی شہرہ آفاق تاریخی کتاب ”ورلڈ ان کولیشن (World in collision) میں مذکور ہیں۔

## طوفانِ نوحؑ

طوفانِ نوح کا ذکر قرآن کی سورہ ہود (36 تا 44) میں ملتا ہے جس کا مخلص ہے کہ

اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی تیار کریں اور اپنے پیروکاروں اور چند پرند کے مختلف جوڑے اپنے ساتھ رکھ لیں جبکہ باقی تمام دنیا کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ آپؑ نے ایسا ہی کیا اور باقی تمام دنیا کو (بشمول آپ کے منکر چنے کے) ایک سیلابِ عظیم کے ذریعے غرق کر دیا گیا۔ اور صرف کشتی پر سوار لوگ اور دیگر جاندار ہی بچ پائے۔

کیا ایسا طوفانی سیلاب صرف قرآن میں مذکور ہے یا تاریخ دنیا بھی اس معاملے میں

کچھ بولتی ہے۔ آئیے تاریخ کے لوراق لیتے ہیں۔

1۔ دنیا کی ہر قوم میں تباہ کن سیلاب کی تاریخ ملتی ہے اور ایسے سیلاب کشتی

چاندیا کسی دھار ستارے کے زمین کے زیادہ قریب آنے پر اٹھ پڑتے رہے ہیں۔

2- امریکہ کی ایک ریاست اوکلوہاما کے لوگ بتاتے ہیں کہ قدیم زمانے میں

ایک مرتبہ زمین پر گہری تاریکی چھا گئی جو کہ انتہائی اونچی سمندری موجوں کی وجہ سے تھی،  
موجیں قریب تر ہوتی گئیں اور بالآخر تباہی کا موجب بنیں۔

3- جدید حکماء زمین (Geologists) کہتے ہیں کہ بعض مقامات پر ایسے  
بڑے اور گول پتھر ملتے ہیں جن کے ہم جنس پتھر قریب جوار میں نہیں پائے جاتے۔ ایسا لگتا  
ہے کہ یہ کسی عظیم سیلاب سے بہ کر آئے۔

4- قدیم چین کی تاریخ بتاتی ہے کہ شہنشاہ ”یا ہو“ کے دور حکومت میں  
ایک ایسا سیلاب آیا تھا جس کا پانی نکالنے کی کوششیں نو برس جاری رہیں پر کامیابی حاصل نہ  
ہو سکی۔ یا ہو کے بعد ”شو کنگ“ شہنشاہ بنا جس نے پانی کی نکاسی کا کام ”یو“ (YU) کو دیا جس  
نے یہ کام خوش اسلوبی سے سرانجام دیا۔ یو کو بعد میں اسی کارنامے کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا گیا۔

5- تبت کی تاریخ کے مطابق ایک دفعہ سمندر سے ایک ایسا سمندری  
طوفان اٹھا تھا کہ تبت کی چوٹیاں تک ڈوب گئی تھیں۔

6- افلاطون لکھتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں افریقہ اور  
امریکہ کے بڑے اعظم آپس میں جڑے ہوئے تھے اور یہ تمام خطہ اتلانٹس  
(ATLANTIS) کے نام سے مشہور تھا اور یہ ایک خوشحال اور طاقتور ریاست تھی لیکن  
ایک رات اچانک ہی اس خطے پر پانی چڑھ آیا جو کہ آج تک بحر اوقیانوس

(ATLANTIS OCEAN) کے نام سے موجود ہے۔

7- اسی طرح یونانی تاریخ میں بھی دو بڑے سیلابوں کا ذکر ملتا ہے اور طوفان

نوح بھی اسی طرح کا ایک طوفان تھا۔

8- قدیم اقوام کی تاریخ کا ایک قصہ طوفان اس قصے کے عین مطابق ہے

فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن میں صاحب کشتی کا نام نوح جبکہ اس میں کو تھرس لکھا گیا  
ہے۔ نام زبانوں کے بدلنے پر بدل بھی جاتے ہیں جیسے حضرت داؤد کو ڈیوڈ، موسیٰ کو یوحنا اور مسیح  
کو عیسیٰ، جیس اور کرائسٹ کہا جاتا ہے اسی طرح ممکن ہے کہ قدیم زمانے کا کو تھرس عربی  
زبان میں نوح کے طور پر بیان فرمایا گیا ہو۔ بہر حال کو تھرس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی  
واقعہ پیش آیا تھا۔

## بربادی کائنات

پروردگار عالم اپنی کتاب قرآن میں بار بار دنیا و کائنات کی تباہی و بربادی سے ڈراتے

ہیں جیسے:

1- اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ اذْتَنَّتْ (انفطار- 1، 2)

”جب آسمان پھٹ جائیں گے اور تارے جھڑیں گے۔“

2- كَلَّا اِذَا دُمَّتِ الْاَرْضُ دُكًا دُكًا (فجر- 21)

”جب زمین پاش پاش ہو جائے گی۔“

3۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتاب کما بدانا اول خلق نعیدہ و عدا علینا انا کنا فعلین (انبیاء۔ 104)

”جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹیں گے جیسے سکل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے اور پھر ویسے ہی بناؤں گے جیسے پہلے بنایا تھا۔ یہ وعدہ ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے۔“

آیات بالا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو مکمل طور پر تباہ کریں گے اور پھر اسے ویسے ہی بنا دیں گے۔ تاریخی حوالا جات کا مطالعہ کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا عمل پہلے بھی ہو چکا ہے اور پھر کبھی دوبارہ لایا جائے گا۔

1۔ ارسطو کے مطابق یہ کائنات ایک دفعہ پانی اور ایک دفعہ آگ سے تباہ ہو چکی ہے۔

2۔ یونان ایک حکیم فلسفی ہرقلیطس کے نظریے کے مطابق دنیا ہر 10800 سال بعد تباہ ہو کر نئی بنتی ہے۔

3۔ ایک قدیم مورخ ہسئڈ (HESIOD) کے نزدیک دنیا کے چار مرتبہ تباہ ہونے کے تاریخی حوالہ جات ملتے ہیں۔

4۔ فلجنگال کے ساحل تبت اور ہندوستان کی تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ دنیا چار دفعہ ختم ہوئی اور پھر پیدا ہوئی۔

5۔ بدھوں کی ایک کتاب ”وسدھی مگا“ میں لکھا ہے کہ دنیا سات بار آندھی یا رب سے تباہ ہوگی۔

6۔ ایک قدیم یونانی ریاضی دان اور ماہر فلکیات اسٹارکس (Starks) کے سال 2484 سال میں دنیا دو دفعہ تباہ ہوئی تھی ایک دفعہ آگ سے اور دوسری دفعہ پانی سے۔

الفرض تاریخ انسانی کے لیے تباہی کائنات دنیا کا نظریہ کوئی انوکھا نہ ہے اور جس طرح تاریخ کے مطابق اللہ دنیا پر تباہی لاتا رہا ہے اسی طرح اب قرآن کے بعد بھی زمین و آسمان کی تباہی ہوگی اور وہ کیسی ہوگی؟

یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم (حج۔ 1)

”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ پھٹک بڑی سخت چیز ہے۔“

جو اتنی بار دنیا کو ختم کر چکا ہے۔ اس کائنات کو آخری دفعہ بھی تہہ و بالا کرے گا۔

فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة۔۔۔ عرش ربک فوقہم یومئذ ثمنیة (حاقہ۔ 13، 17)

”اور جب صور پھونک دیا جائے گا اور زمین پہاڑوں سمیت بچور بچور کر دی جائے گی تو اس روز قیامت قائم ہو جائے گی۔ آسمان ڈھیلے ہو کر پھٹ جائیں گے اور فرشتے آسمانوں کے کناروں پر اکٹھے ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ کے تخت کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔“

## عذابِ مصر

سرکشیوں میں حد سے بڑھنے پر فرعون اور اس کی قوم پر اللہ نے مختلف عذاب نازل کیے۔

فارسنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفاد والدم آیت مفصلت  
فاستكبر واوکانو اقوما مجرمین (اعراف-133)

”ہم نے ان پر (حشرات) مڈی دل، جوڑوں، مینڈکوں اور خون کے الگ الگ عذاب نازل کیے لیکن انہوں نے تکبر کیا کہ وہ مجرم قوم تھی۔“

آیت بالا سے دو طرح کے عذابوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اول حشرات کے ذریعے اور دوم خون کے نزول کے ذریعے عذاب۔

تورات کہتی ہے کہ اللہ نے مصر پر ایسی کھیاں بھیجیں جو انسانوں کو نکل گئیں اور ایسے مینڈک بھیجے جو ہر چیز تباہ کر گئے اور درختوں، فصلوں اور پودوں کو مڈی دل چاٹ گئے اور تمام لوگوں کے گھر جوڑوں سے بھر گئے۔

یہ تو تھے اذکار المہام، اب اللہ نے تاریخ کے اوراق کو کہ آیا ان میں بھی ایسے واقعات مندرج ہیں جو ان واقعات کی شہادتیں فراہم کرتے ہوں جو تاریخ میں جھانکنے سے علم ہوتا ہے کہ مصر کے علاوہ بھی بے شمار جگہوں پر قدرت نے ایسے عوامل دوہرائے ہیں۔ یوں یہ دنیا کے لیے کوئی اسوئی یا نئی بات نہیں۔

(1) قدیم چین کی تاریخ بتاتی ہے کہ شہنشاہ یاہو کے زمانے میں زمین

حشرات الارض سے اچانک بھر گئی تھی۔

(2) جس وقت بنی اسرائیل پر مصر میں یہ تکالیف و مصائب نازل ہوئیں

اور ادھر ادھر بھاگنے لگے تو قبیلہ عمالیق کے لوگ چیونٹیوں کے عذاب سے تنگ آکر عرب سے کنعان کی طرف جا رہے تھے۔

(3) ابو الحسن بن حسین بغدادی 956ء میں لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں بنو

جرہم (خانہ کعبہ کی جگہ پر آباد ہونے والا قدیم قبیلہ) پر اللہ نے چیونٹیوں کا عذاب بھیجا تھا۔ ابو لفرج اصفہانی 967ء میں اپنی کتاب ”کتاب الانامی“ میں اس کی تائید کرتے ہیں۔

(4) ایران کی کتاب ہنڈاہس (Bundahis) میں ذکر ملتا ہے کہ

”اھرمن“ (دیوتا) ایک دفعہ آسمان پر گیا اور کبھی من کر ساری دنیا پر پر پھیلا دیئے اور ایسے لاتعداد چھو، جوئیں، مڈی دل، مینڈک اور سانپ وغیرہ چھوڑے کہ دنیا چیخ اٹھی۔

(5) کہتے ہیں کہ جب کبھی سیارہ زہرہ زمانہ قدیم میں زمین کے قریب سے

گزرا تو اس کی گیس سے زمین پر حشرات ہی حشرات پھیل گئے۔ آج بھی گرمیوں کے موسم میں ریگستانوں کی طرف سے آنے والی ہوائیں حشرات کی پیدائش و نشوونما میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ حشرات کے ذریعے عذاب کی داستان دنیا کے لیے کوئی نئی بات نہیں اور دیگر اقوام جس طرح کے حشرات کے عذاب سے دوچار رہی ہیں، اسی

طرح کی مصیبت الہ مصر پر بھی ٹوٹی تھی۔

## خون کا عذاب

اب آتے ہیں خون کے عذاب کی طرف کہ اس کی تاریخ کی نظر میں کیا حقیقت ہے؟

1- دو ہزار سال قبل مسیح زمین ایک انتہائی زرد دست افتاد سے اس وقت دو چار ہوئی جب ایک دہرہ ستارہ زمین کی طرف بڑھا جس کی دم سے سرخ رنگ کی گیس خارج ہو رہی تھی اور وہ حیرہ احمر سے گزر کر مصر کی طرف گیا تھا۔ جس سے سمندر، تمام دریاؤں، ندی، نالوں، چشموں اور کنوؤں کا پانی ایسے سرخ پڑ گیا تھا جیسے خون۔ اور اسی وجہ سے حیرہ قلزم کا نام حیرہ احمر یعنی سرخ سمندر پڑا تھا۔ مشہور مورخ سرویس (Servious) اس بارے میں رقمطراز ہے،

”اس غبار کی وجہ سے زمین کا رنگ خون کی طرح سرخ ہو گیا تھا“

2- مصر کا ایک فاضل تاریخ دان ایپور (Ipuwer) جو اس واقعے کا عینی گواہ ہے، لکھتا ہے،

”دریاؤں کا پانی خون بن چکا ہے، سارا ملک عذاب میں مبتلا ہے، لوگ پانی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور ساحل پر خالص پانی کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں۔ سرخ غبار سے موشیوں اور، انسانوں کے جسم پر پھوڑے نمودار ہو چکے ہیں اور سب خارش میں مبتلا ہیں۔“

## حیراں کن حقیقت

مصر پر خون کے عذاب کی وضاحت جو تاریخ بیان کرتی ہے، قرآن کے الہامی ہونے کا ناقابل تردید ثبوت تو ہے ہی لیکن تاریخ دانوں کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوا ہو گا کہ وہ قرآنی تفسیر و تشریح میں کچھ اس طرح سے حصہ لے پائیں گے۔

3- اس کے علاوہ یونان کا ایک پہاڑی سلسلہ ”تھریس“ یعنی خون کی نام سے مشہور ہے جس کے بارے میں مذکور ہے کہ دو دیوتاؤں کی آپس میں جنگ ہونے اور ایک کے زخمی ہونے پر خون کی بارش ہوئی اور یہ پہاڑی اور اس کے قریب کا مصری شہر اس کی زد میں آئے تھے۔

4- فن لینڈ، سائبیریا اور منگولیا کی تاریخیں بھی خون کی بارش کے واقعات بیان کرتی ہیں۔ جن کی تفصیل طوالت سے بچنے کی خاطر بیان نہیں کی جا رہی تاہم تاریخ اور زمانے کی یہ شہادتیں اس فرمان الہی کی تصدیق کرتی ہیں،

هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق (جاثیہ۔ 29)  
”یہ ہماری کتاب ہے جو تمہیں سچ بتاتی ہے۔“





## دو مشرق، دو مغرب

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

رب المشرقین ورب المغربین (رحمن، 17)

”وہ (اللہ) دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔“

قدیم تاریخی واقعات کو نزلتے ہیں کہ وہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کی کیا

شہادتیں فراہم کرتے ہیں؟

1 مشہور یونانی مؤرخ ہیروڈوٹس بیان کرتا ہے،

”میں جب مصر میں گیا تو وہاں ایک مذہبی و روحانی پیشوا نے مجھے بتایا کہ مصر کے پہلے بادشاہ سے لیکر اس وقت تک 341 نسلیں گزر چکی ہیں۔ اگر تین نسلوں کا زمانہ ایک سو سال کے برابر خیال کیا جائے تو یہ تقریباً 11400 سال بنتے ہیں اور اس عرصے کے دوران سورج دو مرتبہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں غروب ہوا تھا۔“

مطلب یہ کہ مغرب، مشرق بن گیا اور مشرق مغرب۔ یوں دو مشرق و مغرب ہوئے ایک یہ اور ایک عام جسکا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں۔

2 ایچ لوئج (H.O. Lange) لکھتا ہے کہ زمین پر بارہا ایسا ہوا کہ شمال

جنوب بن گیا، مشرق مغرب میں تبدیل ہو گیا اور زمین الٹ گئی۔

3 افلاطون کہتا ہے کہ بعض اوقات زمین اُلٹے چکر کاٹنے لگتی ہے اور ایسا اس

وقت ہوتا ہے جب آسمانی قوت (پروردگار) زمین کے باسیوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔

4 ایک لاطینی تاریخ دان پمپونیس میلا (Pamponious Mela) کے

ملاقات مصری قوم دو چیزوں پر بہت ناز کرتی ہے۔ اول اپنے قدیم ہونے پر اور دوم اپنی اس

تاریخ پر کہ سورج دو مرتبہ مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں ڈوبا تھا۔



## آسمانی لشکر

رب ذوالجلال اپنے مقرب بندوں کی فرشتوں کی افواج اور دیگر غیبی ذرائع سے مدد

فرماتا ہے۔ قرآن میں بھی اپنے لشکر کے ذریعے مدد کرنے کا ذکر بیان ہوا ہے جیسے معرکہ

حنین کے موقع پر ارشاد ہوا۔

لقد نصوكم الله في مواطن كثيرة... و عذب الذين كفرو و

ذلت جزاء الكافرين (توبہ، 25، 26)

”بے شک اللہ نے کئی جگہوں پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی جب تم اپنے

لشکر کی کثرت پر مغرور ہو گئے تھے لیکن یہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آسکی اور زمین کشادہ

ہونے کے باوجود تم پر ٹک ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اس نے رسول ﷺ

اور مسلمانوں پر اپنی تسکین اتاری، ان کی مدد کے لیے لشکر اتارے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے

تھے اور کافروں کو مزاحمتی کہ وہ اسی قابل تھے۔“

1- یہ تو تھا رسول ﷺ کی مدد کا قصہ جن کے لیے یہ کائنات بنی پر حالیہ

دور میں ہماری مدد بھی 1965ء کی پاک بھارت جنگ میں فرمائی گئی جب بے شمار محاذوں پر ہز پوش گھز سوار اور سفید تباہ والے بزرگ نظر آنے کی ناقابل تردید شہادتیں موصول ہوئیں۔ یہی وہ نبی امداد ہے جس کا اللہ ذکر فرماتا ہے۔

2- تورات کے مطابق جب اشوریا کے بادشاہ سناکرب نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو اسے جبریل نے تباہ کیا تھا۔ اسی طرح طائف کے لوگوں کے جھگ کرنے پر محمد پاک ﷺ سے جبریل نے پوچھا تھا کہ اگر اجازت ہو تو ان لوگوں پر پہاڑ گرا دوں پر آپ نے جواب فرمایا تھا کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے گا اور آڑیہ میری راہ پر چلیں گے اس لیے ایسی ضرورت نہیں۔

3- (یسعیہ نبی) نے کہا تھا،

”آسمانی فوج بوی تیزی سے لڑے گی، وہ نہ تھکے گی نہ سوتے گی، نہ ان کا کمر ہل ڈھیلا ہو گا اور نہ ہی ان کے جوتوں کے تسمے ٹوٹیں گے۔ ان کے تیر تیز ہوں گے اور کمانیں سخت، ان کے گھوڑوں کی سوسوں سے آگ نکلے گی، ان کی گاڑیوں کے پیچھے جھولوں کی طرح گھومیں گے اور ان کے گھوڑے ایسے دھاریں گے جیسے شیر“۔ (یسعیہ کا صحیفہ۔ 30/5/6)

4- نبی لشکروں سے مدد کا تصور یونان کی تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ ہیومر (Humar) اپنے ڈراموں میں دکھاتا ہے کہ تیز رفتار آسمانی گھو سوار یونانی دیوتا کے ساتھ ہیں۔

5- اسی طرح کی آسمانی امداد کا ذکر اہل بابل کی تاریخوں میں بھی مذکور ہے۔  
6- پروفیسر میکس ملر (Max Mullar) نے ویدوں کے اشوک (Vadic Himns) میں بھی ایسی نبی امداد کا ذکر کیا ہے۔

یہ تمام شہادتیں صریحاً اعلان کرتی ہیں کہ کائنات کی تمام طاقتیں صرف اور صرف اسی ذات باری تعالیٰ کے تصرف میں ہیں اور وہ جب چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا،

انا لننصر رسلنا والذین امنو فی الحیوة الدنیا و یوم یقوم  
الا شہاد (سومن 51)

”ہم اپنے رسولوں اور ان لوگوں کی جو ان پر ایمان لاتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں یقیناً مدد کرتے ہیں“

یعنی اس مدد کے لیے رسول ﷺ کی پیروی ہی جیاد ہی شرط ہے۔



## پتھروں کی بارش

قوم لوط کی بد فعلیاں اور بد اعمالیاں جب حد سے تجاوز کر گئیں تو اللہ نے ان پر پتھروں اور کنکریوں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔

فلما جآء امرنا جعلنا علیہا سافلہا و امطرنا علیہا حجارة من سجيل منضود (ہود 82)

”پھر جب ہمارا حکم آگیا تو ہم نے قوم لوط کی بے سستی کو تمس نس کر دیا اور ان پر کنکروں اور پتھروں کی بارش برسائی۔“

آسمان سے سنگ باری کی تاریخی شہادتیں بے شمار ہیں تاہم چند ایک درج ذیل ہیں۔

1- فرانس کے جنوبی حصے پر 1790ء میں پتھروں کی بارش کی خبر ملی تو پیرس کی سائنس اکیڈمی نے اس واقعے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا لیکن جب 26 اپریل 1803ء کو ایگل (Aigle) کے مقام پر ایک شہاب کے پاش پاش ہو جانے سے پتھروں کی بارش ہوئی تو اکیڈمی کو اپنی رائے تبدیل کرنا پڑی۔

2- کتاب بیثوع میں بیان ہے کہ کنعانی، بنی اسرائیل کے آٹھے آٹھے بھاگ رہے تھے تو اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تھی جس سے وہ کثیر تعداد میں ہلاک ہوئے تھے۔

3- فرانس کی تاریخ کے مطابق 17 نومبر 1492ء کو رور کے شہنشاہ ملین (Maxi Millan) اور اس کے درباریوں کے آنکھوں دیکھے ایک مقام آلس (Alsace) میں پتھر برسے تھے۔

4- افلاطون کے نزدیک ایک شہاب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر قدیم یونان کے ایک ریگیو سپوٹامی (Aegospotamy) میں اور اس کے آس پاس گرا تھا۔

5- میکسیکو کی تاریخ میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ آسمان سے آگ اور گرم پتھر برسے تھے۔

6- فن لینڈ کی تاریخ میں بھی ایسی ہی ایک روایت ملتی ہے۔



## من و سلوای

بنی اسرائیل کو پروردگار نے جن آرام و آسائشوں سے نوازا تھا ان میں ایک، ”من و سلوای“ انتہائی قابل ذکر ہے۔

وانزلنا علیکم المن ولسلوای (نورہ 57)

”اور ہم نے تم (بنی اسرائیل) پر من و سلوای اتارا۔“

”من“ سے مراد سفید رنگ کی لذیذ مٹھائی ہے جو ہر صبح منوں کے حساب سے

بنی اسرائیل کے لیے برستی اور وہ اس کو اکھٹا کر لیتے اور جو بچتی، غنیم کی طرح ہوا میں

تخلیل ہو جاتی۔ اس کا ذائقہ شہد جیسا ہوتا تھا۔

”سلاوی“ بیٹروں کی ڈاروں کو کہتے ہیں جو ہر سحران کے خیموں کے قریب اترتے اور وہ انہیں پکڑ لیتے۔

آسمانی غذا کے نزول کے اذکار قرآن کے علاوہ بھی ملتے ہیں جو مندرجہ بالا آیت کی تصدیق و تشریح کرتے ہیں جیسے۔

1۔ بدعسفوں کی تاریخ کے مطابق جب دنیا کا کوئی مخصوص چکر ختم ہوتا ہے تو آسمان سے غذا بننے لگتی ہے ”رگ وید“ اور ”ارتھیر اوید“ (کتائیں) میں بھی آسمان سے شہد نازل ہونے کا ذکر ملتا ہے۔

2۔ قدیم یونان کی تاریخ کے نزدیک ان کے ہاں ایک دفعہ ایسی آسمانی غذا اتری جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا اور جب وہ دریاؤں، نالوں وغیرہ میں ملی تو ان کا رنگ وودھ جیسا سفید ہو گیا تھا۔ اسی پر رومن شاعر اووڈ (Ovid) نے جس کا تعلق پہلی صدی عیسوی سے تھا کہا تھا،

”ہمارے ملک میں شیر و شہد کی نمریں بہتی ہیں۔“

3۔ سینا کے ریگستانوں میں ایک پودے تمرکس (Tamarix) کے ساتھ بالکل من جیسے پھل لگتے ہیں اور صبح کے وقت خود گرتے ہیں اور دھوپ میں شبنم کی طرح پھل جاتے ہیں۔ لوگ ان کو بوتلوں میں بھر کر شہد و جیم کی طرح ڈبل روٹی پر لگا کر کھاتے ہیں۔

مونا آسمانی پھل ہی کہا جاتا ہے۔ کیا عید ہے کہ اللہ نے بطور نمونہ من اس پودے کو تخلیق فرمایا ہو۔

آئس لینڈ کی تاریخ کے تحت کبھی یہاں ایسی آگ بھڑکی تھی کہ سوائے ایک رزے کے تمام لوگ جل کر خاک ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ایک عرصہ تک ایسی شبنمی غذا پر گزارہ کرتے رہے جو گرنے کے بعد جم جاتی تھی۔ آئس لینڈ کی موجودہ آبادی اسی جوڑے کی اولاد بتائی جاتی ہے۔ قرین قیاس ہے کہ چونکہ اللہ کو وہاں نئے سرے سے آبادی پیدا کرنا مقصود تھا اس لیے ان کو زندہ رکھنے کی خاطر وہ اس طرح کی تنزیل کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔

كذلك نفصل الايت لقوم يتفكرون (یونس۔ 24)

”ہم اپنی آیت کو ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، کھولتے ہیں۔“



## آسمانی چنگھاڑ اور اوندھے منہ گرنا

حضرت صالح اور حضرت شعیب کی اقوام کے راہ راست سے بٹنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی خوفناک چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کیا تھا جس کی آواز سے ان کے دل پھٹ گئے تھے اور وہ منہ کے بل زمین پر گر کر مر گئے تھے۔ ان واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب

تیس کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے،

فلما جاء امرنا نجينا صلحا والذين امنوا معه برحمة منا و من خزي ب  
مئذ ان ربلت هو القوي العزيز ✽ واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا  
في ديار هم جنهم (تورہ۔ 66، 67)

”جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح اور اس کے مومن ساتھیوں پر رحم فرمایا ان،  
اس دن کی رسوائی سے بچالیا۔ بیشک تمہارا رب قوت اور عظمت والا ہے اور ظالموں کو چنگھاڑ  
نے آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر ہلاک ہو گئے۔“

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا،

ولما جاء امرنا نجينا شعيبا و الذين امنوا معه برحمته منا واخذت  
الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديار هم جنهم (تورہ۔ 94)  
”اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے مومن ساتھیوں کو اپنی رحمت  
سے بچالیا اور بدکاروں کو ایک چنگھاڑنے آیا جس سے وہ منہ کے بل گر کر ہلاک ہو گئے۔“

اب ہم ان تاریخی شہادتوں پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں جو اس چنگھاڑ کے واقعہ پر مہر  
تصدیق ثابت کرتے ہیں۔

1- زور میں حضرت داؤد نے اس چنگھاڑ کو خدا کی آواز قرار دیا تھا۔

2- پہلی صدی عیسوی کا مؤرخ ”پلینی“ لکھتا ہے کہ زمین کے اہلن سے

بعض اوقات ایک ایسی جیت ناک آواز نکلتی ہے جس کو خدا کی آواز کہنا مناسب ہوگا۔

3- مغربی برازیل کی تاریخ کے مطابق قدیم دور میں کبھی اتنے زور سے بجلی چمکی  
تھی کہ اس کی آواز سے آسمان پھٹ گیا تھا اور اس کے ستاروں کے ٹکڑے زمین پر گرنے  
سے تقریباً تمام جاندار ہلاک ہو گئے تھے۔

4- جب تورات کے پہلے دس احکامات نازل ہوئے تھے تو کوہ طور لرز اٹھا تھا  
جس کی خوفناک آواز دور دور تک سنی گئی تھی۔

5- قدیم مصری مؤرخ اپودور (Ipuwer) لکھتا ہے کہ سال خروج بلند آوازوں  
کا سال تھا اور اس سال ایسی چنگھاڑتی آوازیں سنی گئی تھیں جن سے زمین کی مکمل تباہی کا  
خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔

6- اسرائیلی روایات اور تالمود (حضرت عزیز کی کتاب) میں ذکر ہے کہ جب  
بادشاہ سنا کر ب نے اسرائیل پر کیا تو اس کے لشکر پر آسمان سے آگ برسی جس کے ساتھ  
ایک دہشتناک چنگھاڑ شامل تھی۔

منہ کے بل گرنا

اوپر تو ہمیں چنگھاڑ سے متعلق شہادتیں، اب آتا ہے منہ کے بل زمین پر گرنے کا  
بیان کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ بیٹھے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ چنگھاڑ سے  
بلاکت کے بعد منہ کے بل ہی زمین پر گرے تھے؟

تو اس سوال کا جواب مید علی اصغر بلعرامی کے سفر نامے سے ملتا ہے۔ لکھتے ہیں

، جب ہم مدائن صالح پہنچے تو ہماری ٹرین کا انجن خراب ہو گیا تو ہمیں بتایا گیا کہ ٹرین اگلی صبح

روانہ ہوگی چنانچہ ہم چند دوست شر کے قدیم کھنڈرات کو دیکھنے چلے گئے۔ دور سے ہی اندر کی طرف کھڑی ہوئی چٹانیں نظر آئیں جن کے باہر دروازے بنے نظر آرہے تھے۔ (واضح رہے کہ اقوام عاد و ثمود دونوں سنگ تراشی میں خصوصی مہارت رکھتی تھیں اور انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنی رہائش گاہیں بنا رکھی تھیں۔ یہ مکانات پہلے عاد اور پھر ثمود کا مسکن رہے تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ان مضبوط ترین مکانوں میں اس قدر محفوظ سمجھنے لگے تھے کہ شرک پر اتر آئے تھے۔

پہاڑوں میں گھربنانے کا ذکر کچھ یوں ہے،

وتنحتون من الجبال بیونا فرھین (شعراء۔ 149)

”اور تم پہاڑوں کو تراش کر بڑی خوشی سے گھربناتے ہو۔“

ہمراہی آگے لکھتے ہیں کہ انہی پہاڑوں کے درمیان وہ چشمہ بھی تھا جس میں حضرت صالح کی نائقہ کو پانی پینے سے روکا گیا تھا۔ قدیم کتب و تاریخ دونوں ان اقوام کے ذکر اور انجام کے معاملے میں خاموش ہیں۔ ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان گھروں کی میزہیاں انہی تھیں (معلوم ہوتا ہے کہ فن کی پوری بسنتی کو الٹا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوہے منہ گر کر ہلاک ہوئے تھے)۔

اتنی بڑی یعنی شہادت کے بعد بھی کیا قرآن کے وحی اور حق ہونے پر شبہ کی کوئی گنجائش چھو سکتی ہے؟

ومن اصدق من اللہ حدیثنا (نساء۔ 87)

”اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔“

ایک وضاحت

عام ترجموں میں لفظ ”جَنَمِین“ سے مراد گھٹنوں کے بل گرنا یا زانوں کے بل گرنا

لیا گیا ہے جبکہ لغات القرآن از جناب عبدالرشید نعمانی کے مطابق اس کا مطلب اونٹنوں سے منہ گرنا ہے۔

امام راغب اصفہانی، محمد عبدالفتاح فیروز پوری اور ڈاکٹر غلام جیلانی رقی کے

مطابق بھی اس لفظ کا صحیح ترجمہ منہ کے بل نیچے گرنا ہے۔



## ہر طرف اندھیرا

قرآن عظیم متعدد مقامات پر ایک ایسے وقت کی خبر دیتا ہے،

اذا الشمس کورت ﴿۱﴾ واذا النجوم انکدرت ﴿۲﴾ واذا الجبال سبرت ﴿۳﴾ (تکویر۔ 3۲1)

”جب سورج سیاہ ہو جائے گا (یعنی دنیا پر ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا)، ستارے

جھڑ جائیں گے اور پہاڑ اتر جائیں گے“

ہر طرف اندھیرے کی یہ خبر وحی کوئی نئی بات نہ ہے کیونکہ اللہ نے اس سے قبل

بھی انسان کو کئی دفعہ ایسے حالات سے دوچار کیا ہے۔ جیسے،

1- قہرات میں مذکور ہے کہ مصر میں ایک دفعہ تین دن تک ایسی بلا کی تاریکی اور اندھیرا ہوا کہ کوئی آدمی نہ تو کسی دوسرے کو دیکھ سکتا تھا اور نہ حرکت کر سکتا تھا۔

2- چین کے دو مشورخ ایویلا (Avila) اور مولینا (Molina) کئی سالوں تک سرخ انڈیز کی تاریخی کہانیاں اکٹھی کرتے رہے جن میں سے ایک کہانی یہ تھی کہ ایک مرتبہ ستاروں کے آپس میں ٹکرا جانے کی وجہ سے سورج پانچ دن تک غائب رہا اور دنیا اندھیرے میں ڈوبی رہی۔

3- بابل کی ایک داستان شجاعت گلگمش (Gilgamesh) میں ہے کہ ایک دفعہ ایسی کالی گھنٹا ٹھنی اور ساری زمین پر چھا گئی کہ دنیا تاریک ہو گئی۔

4- ایران کی تاریخی کتاب ہذاہس (Bundahis) میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ دو پہر کے وقت سورج اچانک غائب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا گہری تاریکی میں ڈوب گئی تھی۔

5- قدیم جاپان کی ایک کتاب نہانگی (Nihangi) میں لکھا ہے کہ جاپان کے شہنشاہ کامی یماٹو (Kami Yamato) کے دور حکومت میں سورج مدتوں غائب رہا اور ساری دنیا اندھیرے میں ڈوبی رہی۔

6- میکسیکو کی تاریخ پر دیا گھاتی ہے کہ ایک مرتبہ وہاں پچیس سال تک اندھیرا ہوا تھا۔ چین کا مشورخ گومارا (Gomara) جو کولمبس (Collumbus) کے بعد

امریکہ گیا تھا، اس واقعہ کی تائید کرتا ہے۔

7- امریکہ کی ریاست پیرو اور فن لینڈ کی تواریخ بھی ایسے ہی واقعات بیان کرتی

ہیں۔

اسی طرح ارشاد ہوا،

فارقب یوم ثانی السماء بدخان مبین (دخان-10)

”تو تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمانوں میں دھواں ہی دھواں ہو گا۔“

مفسرین عظام کے نزدیک اس دھوئیں کی وجہ سے چالیس دن اور راتیں مکمل اندھیرا رہے گا اور مومنوں کی حالت ایسے ہو جائے گی جیسے ان کو زکام ہو گیا ہو اور کافروں کی حالت ایسے ہوگی جیسے وہ مدہوش ہوں اور ان کے نکتوں، کانوں اور جسم کے سوراخوں سے دھواں نکلے گا۔ اور یہ دھواں قریب قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہو گا۔

پھر ارشاد ہوا،

اذا السماء انفطرت --- علمت نفس ما قدمت و اخرت (انفطار-541)

”جب آسمان پھٹ جائے، ستارے جھڑ جائیں گے، دریا سوک جائیں گے اور قبریں کھل جائیں گی تو اس وقت تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا (عمل) آگے

بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔

God from a flood that exterminated all living things except for noah and His three sons and their wives and a pair of every living species."

”نوحؑ را استبازی کی وجہ سے سیلاب کے طوفان سے اللہ کی طرف سے چھائے گئے تھے جس نے نوحؑ، آپ کے تین بیٹوں، ان کی بیویوں اور ہر جاندار کے ایک جوڑے کے علاوہ باقی سب کو ختم کر دیا تھا۔“

4 بک آف ٹالج میں درج ہے،

"The God sent rain antill all The earth , even highest mountain was deep under water and all living things perished except Noah and Those who were in The ark (His wife , sons and Their wives )."

” اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش بھیجی جس نے تمام زمین کو حتیٰ کہ اس کے اونچے ترین پہاڑ کو بھی ڈبو دیا ہے۔ تمام زندہ اشیاء سوائے نوحؑ، آپ کی بیوی، بیٹے اور ان کی بیویوں کے، ہلاک ہو گئیں۔“

5۔ قنادہ بن دعامة بصری کا قول ہے، ”تمام لوگ حضرت نوحؑ کی اولاد ہیں۔“ (ابن کثیر)

6۔ ابن عباسؓ کے نزدیک

## صرف اولاد نوحؑ ہی باقی رہی

تمام محقق اس امر پر متفق ہیں کہ روئے زمین پر حضرت نوحؑ کی اولاد کے علاوہ باقی تمام نسلیں طوفان کی وجہ سے ختم ہو گئی تھیں اور موجودہ تمام بنی نوحؑ انسان آپ کے تین بیٹوں سام، حام اور یافث کی اولاد ہیں۔

1۔ کو لمبیا انسائیکلو پیڈیا (صفحہ 1229) میں بیان ہے،

"Noah was the builder of the ark that saved human and animal life from the Deluge.His sons Shem,Ham & Jophet are ancestors of mankind."

”نوحؑ اس کشتی کے بنانے والے تھے جس نے انسانی اور حیوانی زندگی کو طوفان سے چھلایا تھا۔ نوحؑ کے بیٹے سام، حام اور یافث تمام بنی نوحؑ انسان کے باپ ہیں۔“

2۔ مشہور مشرقی ایچ آر گبز (Gibbs) لکھتا ہے،

”طوفان نوحؑ میں سب کچھ غرق ہو گیا تھا سوائے ان لوگوں کے جن کو کشتی میں

سوار کیا گیا تھا اور ہر جانور کا ایک جوڑا بھی چلا۔“ (شارٹر انسائیکلو پیڈیا صفحہ 430)

3۔ لندن انسائیکلو پیڈیا کے نزدیک۔

"Noah on account of his righleousness was saved by

جب نوح کشتی سے باہر آئے تو آپ کے ذاتی خاندان (بیوی، بیٹوں اور ان کی بیویوں) کے علاوہ تمام باقی ساتھی بھی رفتہ رفتہ ہلاک کر دیئے گئے (تفسیر قرطبی)

7- علامہ طنطاوی رقمطراز ہیں۔

”تمام انسان نوح کی نسل ہیں۔ نوح کے تین بیٹے تھے ایک سام جو عربوں، ایرانیوں اور روسیوں کا جد امجد ہوا، دوسرا حام جو کہ سیاہ فام لوگوں کا باپ بنا اور تیسرا یافث جو خیر و خزر کے ترکوں اور یاجوج ماجوج کا مورث اول قرار پایا۔“ (صافات کی تفسیر)

یہ تو تھی نسل انسانی کے متعلق محققین کی تحقیق و نتائج، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک اس معاملہ پر کیا فرماتا ہے؟

و جعلنا ذریعۃ ہم البقین (صافات- 77)

”اور ہم نے صرف (نوح) کی اولاد کو باقی رکھا زندہ رکھا۔“

اب اس میں کیا شہ جح سکتا ہے کہ

تنزیل من رب العلمین ﴿۱﴾ افیہذا الحدیث انتم مدہنون (راقہ- 80-81)

”یہ (قرآن) سب جنانوں کے رب کا اتارا ہوا ہے تو کیا تم اس بات کو نہیں مانتے۔“

## قرآن کے متعلق غیر مسلم

باب پنجم

### اور نو مسلم دانشوروں کی آراء

قرآن کے مداح صرف ہم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہیں سینے کیلئے الگ کتاب کی ضرورت ہے اس لیے ان چند کے ذکر پر ہی اکتفا کریں گا۔ ذیل کے تاثرات میں سے زیادہ تر ”اسلام از اور چونکس“ (Islam is our Choice) سے ماخوذ ہیں۔

#### نیپولین بونا پارٹ

فرانس کے مشہور شہنشاہ اور بہرہ و جرنیل نیپولین بونا پارٹ نے کہا تھا، ”وہ وقت دور نہیں جب میں دنیا کے تمام تعلیم یافتہ، دانشور و مذہب انسانوں کو قرآن کی صداقتوں پر دوبارہ جمع کروں گا۔ قرآن وہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی تعلیمات میں وہ صداقت ہے جو دنیا کو مسرت سے ہم کنار کر سکتی ہے“

#### ڈاکٹر بیٹا نیسیٹ

جیرس کا یہ ڈاکٹر 1935ء میں مسلمان ہوا اور اسلامی نام علی سلمان رکھا، کہتا ہے۔ ”میں پیرس کی ایک کیتھولک فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ تعلیم مکمل کرنے کے

بعد میں عیسائیت سے منکر ہو گیا۔ کیونکہ اس کے اصول عقل کی رسائی سے باہر تھے۔ چنانچہ میں نے قرآن حکیم کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس میں بعض ایسے سائنسی حقائق پائے جنہیں ماڈرن سائنس نے آج دریافت کیا ہے۔ تب مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ خدا ایک ہے اور محمد ﷺ اس کے سچے رسول ہیں“

جے۔ ڈبلیو لوگراف

برطانیہ کا فاضل بیان کرتا ہے،

”قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے الفاظ ہونے پر بے شمار تاریخی واقعات موجود ہیں اور محمد ﷺ وہ واحد رسول ہیں جن کی زندگی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں۔ اسلام ایک ایسا فطری اور سادہ مذہب ہے جو فضولیات و تہذیبوں سے پاک ہے۔ قرآن نے اس مذہب کی تفصیل پیش کی اور رسول ﷺ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ قول و عمل کا یہ حسین امتزاج کہیں اور نظر نہیں آتا۔“

ڈاکٹر جر مینس

یہ ہجری کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد اپنا نام عبدالکریم رکھا اور بعد میں ہجری زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیا۔ اپنی آپ بیتی کچھ اس طرح سناتے ہیں،

”ایک رات اسلام کے رسول محمد ﷺ میرے خواب میں آئے اور اپنی شناخت انے کے بعد فرمایا کہ بے ہتھک قدم بڑھاؤ، یہی صراطِ مستقیم ہے۔ اور پھر ان آیات کی تلاوت فرمائی،

الم نجعل الارض مہادا۔۔۔۔۔ وجعلنا النهار معاشا (نباء۔ 11۶6)

”کیا ہم نے زمین کو ہستز نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین پر پتھروں کی طرح نہیں

تازھا؟ کیا ہم نے تمہیں مردوزن کی صورت میں پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے نیند کو سکون آور، رات کو پردہ پوش اور دن کو کسب معاش کیلئے موزوں نہیں بنایا؟“

پس اس خواب کے بعد مجھ پر اسلام اور قرآن کی حقیقت آشکار ہو گئی اور میں جمعہ کے دن جامعہ مسجد دھلی میں جا پہنچا اور اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کر دیا جس پر ہر طرف نعرہ تکبیر بلند ہوئے اور ہزاروں مسلمانوں نے اٹھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور میرے ہاتھ چومے۔ میں اخوت و محبت کے اس جذبے بے حد متاثر ہوا میری روح سے مسرت کی اتنی بڑی لہرائی تھی کہ جس کی لرزش زندگی بھر باقی رہی۔“

ولیم برشل بشیر

کمہرج یونیورسٹی سے بی۔ اے اور لنڈن یونیورسٹی سے ایل۔ ڈی کی ڈگری لینے کے بعد یہ شخص فوج میں بھرتی ہوا، پہلی عالمی جنگ میں زخمی ہوا، کچھ بہتر ہونے پر قرآن پاک کا فرانسیسی ترجمہ خرید اور اس کے مطالعے کے بعد اعلان کیا،

”مجھے قرآن پاک کے مطالعہ سے بے اندازہ روحانی مسرت ہوئی اور میں یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے کسی لافانی صداقت کا آفتاب مجھ پر تجلیاں برسا رہا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بہترین لباس اسلام ہے اور بہترین رشتہ خدا سے محبت۔“

### والٹر موزگ سیف الدین

یہ اپنی آپ بیٹھی کچھ یوں بیان کرتا ہے،

”میں 1943ء میں برلن (جرمنی) میں پیدا ہوا تھا۔ وہاں سے میرے والدین ارجنٹائن چلے گئے چونکہ میں مشنری بننا چاہتا تھا اس لئے مذہبی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ ایک روز اتفاق سے مجھے قرآن مقدس کا ہسپانوی (Spanish) ترجمہ مل گیا میں نے اسے بدلی سے کھولا لیکن جب میں اس کو ختم کر چکا تو اسلام و قرآن سے محبت میرا ایمان بن چکی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے باطل سے صداقت، غلط سے صحیح، ظلمت سے نور اور عیسائیت سے اسلام کی راہنمائی کی۔ قرآن میں تمام سوالات کا جواب اور شکوک کا حل مل گیا۔ میری تاریکیاں نور میں اور میرا اضطراب سکون میں بدل گیا۔ اللہ نے مجھے اپنے نور کی طرف اس زور سے کھنچا کہ میں نے سپر ڈال دی۔ مجھ پر تمام حقائق روشن ہو گئے ہیں۔ اب میں خدائے کائنات اور اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہوں اور میری دنیا بکسر بدل گئی ہے۔“

### برجٹ ہنٹی۔ عائشہ

برطانیہ کی یہ لڑکی شروع سے ہی مختلف مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرنے میں مصروف رہتی تھی آخر کار جب اس نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا تو سورہ عمران تک پہنچے پر ہی اسلام قبول کر لیا۔ بیان کرتی ہے،

”اسلام کو چھو میٹری کی ایک شکل سمجھنے جس کے تمام اضلاع ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے جس کی بنیاد اخلاقی قدروں پر ڈالی گئی ہو۔ اسلام جسم و روح، ہر دو کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے“

### ایبیج ایف فیروز

یہ برطانوی لڑکی کا ایک افسر تھا جس نے دونوں عالمی جنگوں میں حصہ لیا تھا، بیان کرتا ہے،

”قرآن ایک مکمل ہدایت ہے، زندگی کے تقاضوں سے ہم آہنگ۔ اس کا مقصد نوح انسان کو جلیل و جمیل بنانا ہے اور یہ آسمانی مذاہب کا آخری اور مکمل ایڈیشن ہے“

### بہی۔ کارلے۔ فاروق

زنجبار کا یہ پارسی 1940ء میں مسلمان ہوا تھا، قرآن سے متعلق لکھتا ہے،

”قرآن کا عجیبی ترجمہ پڑھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ صرف یہی کتاب انسانی اخوت،

اسوات، محبت، رحم و عدل اور انسانیت کی برائی کا درس دیتی ہے اور مسلمان اس کتاب کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ باقی رہیں گے۔“

ارکسن۔ محمود

یہ سویڈن سے تعلق رکھتا تھا، 1950ء میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور پوچھنے پر وجہ کچھ یوں بتائی،

”اسلامی تعلیمات مہذبہ بر حقیقت ہیں۔ قرآن جا بجا دلائل سے کام لیتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام تمام کائنات کا مذہب ہے اور خدا کو صرف خدائے اسلام نہیں بلکہ رب العالمین قرار دیتا ہے“

میوسبی۔ جالی

انگلستان کی یہ خاتون تمام مذاہب عالم کا ایک ایک کر کے تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد 1954ء میں مسلمان ہو گئی تھی، قرآن کے بارے میں لکھتی ہے،

”قرآن نے ایک ایسا نظام حیات پیش کیا ہے جس سے بہتر نظام کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اگر آپ کو کسی اور نظام میں کوئی خرابی نظر آئے تو یقین کر لیجئے کہ اس کا ماخذ بھی قرآن ہی ہے“

ابن رشد

اندلس (سپین) کا نامور فلسفی کتاب ہے،

”قرآن وہ واحد الہامی کتاب ہے جو بیک وقت عقائد کا مجموعہ بھی ہے اور قانون کا

مجموعہ بھی۔“

محمد اسد

آسٹریا کا ایک مستشرق جو مسلمان ہو گیا تھا، لکھتا ہے،

”قرآن نے دنیا کی مذہبی، سماجی اور سیاسی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ اس نے جزیرہ نما عرب میں تہلکہ مچا دیا اور لڑتے ہوئے قبائل کو ایک قوم بنا دیا۔ اسلام کے آفاقی افکار، عرب کی سرحدوں کو جلد پھیلائی گئے اور انہوں نے دنیا کی پہلی نظریاتی ملت کو جنم دیا۔ علم و شعور سے متعلق اسلام کی تاکیدی ہدایات سے اس کے پیروکاروں میں ذوق جستجو پیدا ہو گیا جس نے دنیائے اسلام کو تہذیب و تمدن کی انتہائی بلند یوں پر پہنچا دیا۔ (An Apology

for Mohammad. J. D. part

☆☆☆

## شانِ محمد ﷺ

سید لولاک ﷺ کی عالی ترین شان بیان کرنے کیلئے سینکڑوں، ہزاروں مسلم اور غیر مسلم دانشوروں نے قلم اٹھائے یا لاکھوں کتب سیرت اور کرداروں تھیدے لکھ ڈالے لیکن کسی کے ذوقِ تحریر کو تسکین و اطمینان حاصل نہ ہو سکا۔ ہر مفکر نے آپ ﷺ کی حیاتِ طیبہ اور ذاتِ اقدس کے فضائل و کمالات کو اپنے انداز و الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی تاہم ہر کوشش صرف کوشش ہی بن کے رہ گئی۔

اس لئے آپ ﷺ کی شان بیان کرنے کی کیا جسارت کہ پروردگار نے

﴿اتقوا ربَّكُم وَاَطِيعُوا أَمْرًا مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ اور صرف آپ ﷺ کے ظہور کی خاطر عمل میں لائی، (مزید گور و ناکہ کا استدلال باب ہفتم میں پڑھیں)

☆ آپ ﷺ پر درود و سلام بھیجنا اس کی اور اس کے فرشتوں کی محبوب ترین عادت تھری

☆ آپ ﷺ کو دو جہانوں کی رحمت بنا کر پوری نسلِ انسانی پر آپ کی اطاعت فرض قرار دی

☆ اپنی علم و حکمت اور ہدایت سے بھرپور عظیم القدر کتاب ”قرآن حکیم“ آپ ﷺ پر نازل فرمائی اور

سید الانبیاء اور خاتم النبیین کا تہہ صرف آپ کو عطا فرمایا اور اپنے دیدار کا شرف بھی صرف آپ ﷺ کو بخشا۔

الغرض حضرت محمد ﷺ کی عظمت و بزرگی بیان کرنا انسانی ہنس کی بات نہیں سوائے اس کے کہ،

ہر وقت آپ ﷺ پر درود و سلام بھیجا جائے

”اللھم صلی علی سیدنا محمد و علیٰ آل سیدنا محمد و بارک و سلم“

پر درود گار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیبِ کرم ﷺ کی امت

میں پیدا فرمایا۔

☆☆☆

## باب ششم قدیم صحائف میں

### حضرت محمد ﷺ کا ذکر خیر

#### حضرت سلیمان

حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان نے سید الانبیاء و خاتم النبیین ﷺ کا ذکر درج

ذیل الفاظ میں بیان فرمایا تھا۔

”وہ خلو‘ محمد یم زہ و دمی زہ رعی“ (تسبیحات سلیمان 5-12)

”وہ ٹھیک محمد ہیں اور میرے محبوب اور میری جان ہیں“

#### حقوق

کیا نبی خاتم النبیین ﷺ کی چاہت میں صرف سلیمان ہی تڑپے تھے؟ نہیں، قدیم زمانے

کے نبی حقوق نے صدیوں پہلے آپ ﷺ کے بارے میں فرمایا تھا۔

”اللہ جنوب سے، اور جو وہ قدوس ہے، کوہ فاران سے آیا ہے اور اس کی شوکت

سے آسمان چھپ گیا، مین احمد کی حمد سے بھر گئی“ (صحیفہ نبی حقوق باب 3)

یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حقوق کی پوشھوکی کے عین مطابق آپ

ﷺ اور آپ کے دین کو اللہ نے اس قدر غلبہ عطا فرمایا کہ ساری دنیا ہر وقت آپ ﷺ کی

حمد میں مصروف رہتی ہے (تفصیل کیلئے پیچھے ”غلبہ دین حق“ پڑھیں)

#### یسعیاء

یسعیاء فرماتے ہیں:

”بیابان (عرب) اور اس کی بستیوں قیدار کے آباد گاوڑں اپنی آواز بلند کریں گے،

اسلع کے باشندے ایک گیت گائیں گے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے لاکاریں گے، وہ خداوند کا

(یسعیاء کا صحیفہ باب-42)

جلال ظاہر کریں گے“

اسلع کا پہاڑ اب بھی موجود ہے آج بھی مدینہ منورہ کے کسی پے سے پوچھا جاسکتا

ہے کہ وہ اپنی بحریاں کس پہاڑ کے دامن میں چراتا ہے۔ اس اسلع کے پہاڑ کے ساتھ اب بھی

خندق کے نشانات موجود ہیں اور دامن اسلع کے باشندوں نے ہجرت پر حضور ﷺ کا

استقبال ”طلع لہدر علینا“ اور دیگر گیتوں کے ساتھ کیا تھا۔

#### ملائکی

نبی ملائکی نے ذکر فرمایا تھا:

”وہ خداوند جس کی تلاش میں تم ہو، ہاں اعمد کارسول جس سے تم خوش ہو، وہ

بیکل میں ہاگمان آئے گا، دیکھو وہ یقیناً آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے! اس کے آنے کے دن

کون ٹھہر سکے گا اور جب وہ نمودار ہوگا تو کون کھڑا رہے گا؟“

تاریخ شاہد ہے کہ ہیکل میں ناگمان آیا پھر نبی فرج مکہ کے موقع پر حضور ﷺ دس ہزار صحابہ کی فوج لے کر اچانک مکہ پہنچے تو جب آپ ﷺ کے صحابہ نے رات کا کھانا کھانے کیلئے جو لمے جلائے تو تب ابو سفیان اور مکے والوں کو آپ کی آمد کا علم ہوا اور پھر فرج مکہ کے موقع پر آپ ﷺ کے سامنے کوئی نہ بھی نہ ٹھہر سکا تھا۔

### مہاتما بدھ

مہاتما بدھ سے کون واقف نہیں؟ حضرت عیسیٰ سے پانچ سو سال پہلے اس نے تمام مشرقی ممالک کو ایک ہی مذہب ہی رشتے سے باندھ کر رکھ دیا تھا۔ اس عظیم مہاتما بدھ نے اپنے آخری وقت میں دنیا کو کیا وصیت کی تھی، یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے اگرچہ بہت کچھ مٹ چکا ہے لیکن مہاتما بدھ کے وہ جملے اب تک زندہ ہیں جو اس نے اپنی آخری سانسوں کے وقت اپنے شاگرد نندا کے کان میں ڈالے تھے، جب اس نے روتے روتے بدھا سے پوچھا تھا،

”آقا آپ کے جانے کے بعد دنیا کو کون تعلیم دے گا؟“

بدھ کا جواب تھا۔

”نندا میں پہلا بدھ نہیں جو زمین پر آیا اور نہ ہی آخری بدھ ہوں۔ اپنے وقت پر دنیا میں ایک اور بدھ (بدھ کے معنی عقلمند اور خدا شناس کے ہوتے ہیں) آئے گا۔ مقدس، منور

القلب، عمل و انانی سے لبریز، مبارک، عالم کائنات اور انسانوں کا عدیم المنظیر سردار، جو غیر فانی حقائق میں ظاہر کرتا ہوں، وہ بھی ظاہر کرے گا اور وہ میری طرح ایک مکمل اور خالص مذہبی نظام زندگی کی تبلیغ کرے گا“

نندا نے پوچھا! ہم اسے کس طرح پہچانیں گے؟

بدھا نے فرمایا: ”وہ میرا“ کے نام سے موسوم ہوگا“

اکتوبر 1930ء میں الہ آباد کے مشہور انگریزی اخبار لیڈر (Leader) میں ایک

بڑے شہت کا مضمون شائع ہوا جس میں اس نے لفظ ”میرا“ کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا،

”وہ جس کا نام رحمت ہے“

بلاشبہ حضرت محمد ﷺ کو ہی اللہ تعالیٰ نے دو جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔

☆☆☆

## الہامی کتابوں میں حضور ﷺ کی آمد کی

### بشارتیں

اب ہم آپ ﷺ سے قبل آنے والی الہامی کتب، زبور، تورات اور انجیل کا بابا لیتے ہیں کہ ان کتابوں نے نبی آخر الزمان ﷺ سے متعلق کیا پیشگی بشارتیں اور خبریں فرمائی ہیں۔

### زبور

حضرت داؤد پر نازل ہونے والی اس الہامی کتاب میں حضور ﷺ کا ذکر خیر کچھ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔

”مبارک ہیں وہ (رسول اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام) جو تیرے گھر میں بستے ہیں وہ سدا تیری حمد کرتے ہیں وہ بجز سے گذرتے ہیں کونوں مانتے ہوئے“ (زبور باب - 18)

قرآن نے اگر بجز کا نام مکہ بتایا ہے تو بے اطمینانی کیونکر جب قرآن کے مشہور مخالف ”بارگولیو تھو“ نے بھی گواہی دی کہ بجز عرب کے مکہ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں۔

زبور، تورات اور انجیل جیسی قدیم الہامی کتب جو کہ آج اصل حالت میں موجود ہیں، میں نبی خاتم النبیین ﷺ کا اتنا بیان بھی قابل قدر ہے۔

### تورات

جب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے طور سینا کے پہاڑ پر اپنے نور کی معمولی سی تجلی دکھائی تو وہ اوش ہو گئے، تورات میں ذکر ہے،

”خدا سینا سے نکلا، سحیر سے چکا۔ (اس کا آخری رسول ﷺ) فاران کی پہاڑیوں پر گر ہوا، دس ہزار قد سیوں کے ساتھ“ (پیدائش باب 17-20)

فاران مکہ کے پہاڑوں کا نام ہے اور رسول ﷺ جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں آئے تو آپ ﷺ کیساتھ دس ہزار جانہازوں کا لشکر تھا۔

ایک اور مقام پر تورات میں ذکر ہے،

1 ”وہ عربی ہوگا اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا“

(اش باب 16-13)

2 ”اور اسی لئے وہ اپنی آزادی کو ہر چیز سے منہگی خیال کرتے ہوئے اپنے سب

دوں کے درمیان بددو باش کرے گا“ (باب مذکور)

بلاشبہ حضرت محمد ﷺ نے ایک ایک کر کے تمام علاقوں کی انسانیت کو باطل و

## الہامی کتابوں میں حضور ﷺ کی آمد کی

### بشارتیں

اب ہم آپ ﷺ سے قبل آنے والی الہامی کتب، زبور، تورات اور انجیل کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کتابوں نے نبی آخر الزمان ﷺ سے متعلق کیا پیشگی بشارتیں اور خبریں بیان فرمائی ہیں۔

### زبور

حضرت داؤد پر نازل ہونے والی اس الہامی کتاب میں حضور ﷺ کا ذکر خیر کچھ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔

”مبارک ہیں وہ (رسول اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام) جو تیرے گھر میں بستے ہیں وہ سدا تیری حمد کرتے ہیں وہ بچہ سے گذرتے ہیں کنواں بناتے ہوئے“ (زبور باب - 18)

قرآن نے اگرچہ کا نام مکہ بتایا ہے تو بے اطمینانی کیونکہ جب قرآن کے مشہور مخالف ”بارگولیو تھ“ نے بھی گواہی دی کہ بچہ عرب کے مکہ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں۔

زبور، تورات اور انجیل جیسی قدیم الہامی کتب جو کہ آج اصل حالت میں موجود ہیں، میں نبی خاتم ﷺ کا اطمینان بھی قابل قدر ہے۔

### تورات

جب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے طور سینا کے پہاڑ پر اپنے نور کی معمولی سی تجلی دکھائی تو بے ہوش ہو گئے، تورات میں ذکر ہے،

”خدا سینا سے نکلا، سعیر سے چمکا۔ (اس کا آخری رسول ﷺ) فاران کی پہاڑیوں

سے جلوہ گر ہوا، دس ہزار قدم سیوں کے ساتھ“ (پیدائش باب 17-20)

فاران مکہ کے پہاڑوں کا نام ہے اور رسول ﷺ جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں

داخل ہوئے تو آپ ﷺ کیساتھ دس ہزار جانتا ہوں کا لشکر تھا۔

ایک اور مقام پر تورات میں ذکر ہے،

1 ”وہ عربی ہوگا اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا“

(پیدائش باب 16-13)

2 ”اور اسی لئے وہ اپنی آزادی کو ہر چیز سے منگنی خیال کرتے ہوئے اپنے سب

معاویوں کے درمیان لاد دباش کرے گا“ (باب مذکور)

بلاشبہ حضرت محمد ﷺ نے ایک ایک کر کے تمام علاقوں کی انسانیت کو باطل و

جہالت کے پٹجے سے آزاد کرادیا اور آپ ﷺ کا بازوئے حق ہمیشہ ہر دور میں  
کے خلاف ہی رہا۔

ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اہل توہم و کفر  
آپ ﷺ کی ولادت باسعادت سے قبل آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے  
کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔

1- حضرت صفیہؓ جن کو بعد میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا، نے  
حی بن اخطب کی بیٹی تھیں اور آپ کے چچا کا نام یا سر تھا۔ آپ بیان کرتی تھیں  
”جب اللہ کے رسول ﷺ قباء میں تشریف لائے اور ہنسی مہر، مہر  
قیام فرمایا تو میرے والد اور چچا منہ اندھیرے ہی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے  
لیے پھل پڑے۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب وہ ٹھکے ماندے گھر پہنچے اور  
معمول کے مطابق مرحبا کہا لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری طرف آنکھ نہ  
دیکھا۔ چچا نے میرے والد سے پوچھا کیا یہ وہی (نبی) ہیں۔ انہوں نے نہ آپ ﷺ  
کی قسم ”پھر چچا نے پوچھا کیا تم نے ان کو تو رات کی بیان کروہ نشانوں کے  
والد نے پھر وہی جواب دہرایا یعنی ”بھٹک خدا کی قسم“ اس کے بعد چچا نے  
ہے؟ میرے والد نے جواب دیا۔

”عداوتہ واللہ ما بقیمت“ (خدا کی قسم جب تک زندہ ہوں)

عداوت کرتا رہوں گا)۔ (ہدایہ الہیاری۔ علامہ ابن تیمیہ)

2- بنو قریظہ یہودی قبیلہ تھا۔ عاصم بن عمر بیان کرتے ہیں کہ بنی قریظہ کے ایک  
سر دار نے مجھ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ شعبہ کے دونوں بیٹے (اسد اور ثعلبہ) اور عبید کا  
بیٹا (اسد) تینوں کیسے مسلمان ہوئے۔ میں نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم تو اس پر اس نے یہ  
واقعہ سنایا۔

”شام کا ایک یہودی جس کا نام ”امن البیبان“ تھا ہمارے پاس آکر (مدینہ) میں  
رہائش پذیر ہو گیا۔ باضد اہم نے اس سے بے ستر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ جب کبھی ہم قوط  
سالی کا شکار ہوتے تو اس سے دعا کی درخواست کرتے جس پر وہ ہمیں صدقہ دیتے کوکتا اور  
پھر کھلے میدان میں جا کر اللہ کے حضور دعا مانگتا۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا ہوتا کہ بارش آجاتے  
اور بارش برسنے لگتی۔ یہ ہمارا بارش کا تجربہ تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آپہنچا تو ہم  
سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس نے پوچھا۔ اے گروہ یہودی! تم جانتے ہو کہ میں سر  
زمین شام جو ہر طرح کی آسائشوں اور خیراویوں کی سر زمین ہے، کو چھوڑ کر اس شہر میں  
کیوں آیا جہاں افلاس و بھوک کے سوا کچھ نہیں؟ ہم نے جواب دیا اس کی بہتر وجہ تم خود ہی  
جانتے ہو۔ اس پر بولا،

”میں اس لیے یہاں غریب و موطنی کی زندگی بسر کرتا ہوں اور اب اس حالت میں دم

توڑ رہا ہوں کہ مجھے ایک نبی کے ظہور کی توقع تھی۔ اس کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آگیا

ہے۔ جب وہ تشریف لائے گا تو تم اس کی اطاعت اختیار کرنا تاکہ اس معاملے میں کوئی تم پر بازی نہ لے جائے“

اس کے بعد یہ مرد حق خالق حقیقی سے جا ملا۔ لیکن اس کے چند سالوں بعد جب رسول محمد ﷺ نے بنو قریظہ کی گھڑیاں فتح کیں تو تینوں نوجوانوں (اسد، ثعلبہ اور اسد بن عبید) نے با آواز بلند کہا،

”اے گروہ یہودی! یہی وہی (نبی) ہیں جن کا ذکر تمہارے سامنے ابن البیہان نے کیا تھا“ یہود نے کینہ اور عناد کی بنا پر انکار کیا تو نوجوانوں نے کہا بخدا یہ وہی ہیں اور ان میں وہ تمام صفات موجود ہیں جن کا ذکر ابن البیہان کیا کرتا تھا۔

تب وہ تینوں اپنے مال و اولاد کی پردہ نہ کرتے ہوئے جو کہ یہودیوں کے قبضے میں تھے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ (ہدایہ انجیری۔ ابن قیم) 3۔ ابن ابی نملہ سے روایت ہے کہ بنی قریظہ کے یہودی اپنی اولاد کو آخری نبی ﷺ کی صفات اور ناموں سے آگاہ کیا کرتے تھے اور یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ مدینہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے لیکن جب آپ مبعوث ہوئے تو حسد اور عناد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہ لائے۔

4۔ مالک بن سنان بیان کرتے ہیں، میں نے بنی عبدالاشثل کے ایک یہودی ”یوشع“ کو یہ کہتے سنا کہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آگیا ہے، اس کا نام ”محمد“ ہو گا

، حرم سے نکلے گا۔ خلیفہ بن ثعلبہ نے پوچھا اس کا علیہ بتاؤ۔ اس پر یوشع بولا، ”نہ وہ پست قد کا ، گا اور نہ ہی طویل القامت، اس کی آنکھوں میں سرخی ہوگی اور یہ شہر یشرب (مدینہ) اس نبی کی ہجرت گاہ ہے۔“

مالک مزید بتاتے ہیں کہ یہ سن کر میں اپنی قوم کے پاس گیا اور یوشع کی بات سنا کر حیرت میں ڈوب گیا تو ایک اور آدمی بول پڑا۔ یہ بات، صرف یوشع ہی نہیں بلکہ یشرب کا ہر یہودی جانتا ہے۔ اس کے بعد میں بنی قریظہ کے پاس آیا وہاں ان کے چند آدمی جمع تھے اور وہ بھی اسی ذکر میں مصروف تھے۔

زبیر بن باطان نے کہا،

”سرخ ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور یہ سرخ ستارہ صرف اس وقت طلوع ہوا کرتا ہے جب کسی نبی کا ظہور ہو اور اب سوائے احمد کے کوئی نبی باقی نہیں رہا اور یہ شہر (یشرب) اس کی ہجرت گاہ ہے۔“

5۔ روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضور ﷺ کی تشریف آوری سے پیشتر یہود کا شعار تھا کہ جب کبھی کفار اور مشرکین کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی اور ان کی فتح کے ظاہری امکانات ختم ہو جاتے تو اس وقت تو رات کو سامنے رکھتے اور وہ مقام کھول کر جہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفات و کمالات کا ذکر ہوتا، وہاں ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ میں دعا کرتے۔

”اے اللہ! ہم تجھ سے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی

بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے۔“

تو حضور پر نور ﷺ کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے دیتا۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے،

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا

كفروبه فلعننته الله على الكافرين (نورہ-89)

”اور وہ کافروں پر (نبی کے دے سے) فتح مانگا کرتے تھے لیکن جب وہ نبی ان کے

پاس آیا جسے وہ جانتے تھے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ سو کفر کرنے والوں پر

اللہ کی لعنت ہو۔“

علامہ ابن جوزی رقمطراز ہیں،

”معاذ بن جبل اور بشر بن براۓ نے کہا اے گروہ یہود! اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول

کردو۔ تمہیں وہ بات بھول گئی جب ہم مشرک تھے تو تم آخری نبی کے دے سے ہم پر فتح

حاصل کیا کرتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی صفات کے

بارے میں ہم کو بتایا کرتے تھے“

اسی بات کا ذکر اللہ نے اپنی عظیم القدر کتاب میں کچھ ان الفاظ میں فرمایا ہے۔

الذين يتبعون الرسول... اولئك هم المفلحون (غزاف-157)

”جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی الہی ہے جس (کے ذکر) کو وہ اپنے پاس

ذرات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور برائی سے روکتا

ہے، پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے اور زنجیروں

میں جھکڑے ہوئے لوگوں کا لاجھ اتارتا ہے۔ پس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے، اس کی

تعظیم اور امداد کی اور اس نور (قرآن عظیم) کی پیروی کی جو آپ پر اتارا گیا۔ تو یہی لوگ

آپ کے ساتھ کامیاب اور کامران قرار پائے۔“

## انجیل میں آپ ﷺ سے متعلق

### انکشافات

انجیل مقدس جو اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ پر نازل فرمائی گئی، میں

حضرت محمد ﷺ کی آمد سے متعلق بھارتوں سے قبل انجیل کی ترتیب و تدوین سے متعلق

مختصر جائزہ انتہائی ضروری معلوم ہوتا ہے۔

عیسائی اپنی چار انجیلوں کو مستند قرار دیتے ہیں۔

۱۔ انجیل متی۔ ۲۔ انجیل مرقس۔ ۳۔ انجیل لوقا اور ۴۔ انجیل یوحنا۔

یہ ایک قابل غور حقیقت ہے کہ ان میں سے کوئی بھی انجیل 70ء سے پہلے مدون نہیں ہو

سکی۔ برٹانیکا انسائیکلو پیڈیا کے نزدیک،

its exact date and exact place of origin are uncertain but it appears to date from the later years of the 1st century .

”اس کے معرض وجود میں آنے کی صحیح تاریخ اور صحیح مقام غیر یقینی ہیں لیکن ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلی صدی کے آخری سالوں سے ہے“  
اسی کالم میں تھوڑا آگے چل کر بیان ہے۔

We have no certain knowledge as to how or where the fourfold gospel canon came to be formed.

”ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں کہ یہ چار مستند انجیلیں کیسے اور کہاں وجود میں آئیں“  
اس کے علاوہ اولیٰ تو جن لوگوں نے ان انجیل کو مرتب کیا تھا وہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے نہ تھے اور نہ ہی انہوں نے ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے ذریعے یہ انجیل ان تک پہنچی تھیں۔ جو کتاب اتنے عرصے بعد مدون ہوئی اور یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ کن لوگوں کی وساطت سے آگے پہنچی تو اس پر کیا بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ یوں قرآن کی طرح انجیل کی ترتیب و تدوین بروقت نہ ہو سکی (قرآن کی تدوین کے متعلق پیچھے کے مضمون ”قرآن سے متعلق وعدے“ میں پڑھیں)

دوم یہ کہ انجیل مقدس سریانی زبان میں نازل ہوئی لیکن سریانی زبان کا آج کوئی

ایک نسخہ بھی روئے زمین پر موجود نہیں ہے تاکہ اس کا دیگر تراجم کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے۔ انجیل کا سب سے پہلا ترجمہ جو یونانی زبان میں ملتا ہے وہ بھی چوتھی صدی عیسوی کا ہے۔ خود اندازہ کریں کہ اتنے عرصے تک انجیل کیا سے کیا نہ ہوئی ہوگی۔ صاف معلوم ہوا کہ انجیل کی ترتیب و تدوین کی ضرورت کو بہت بعد میں محسوس کیا گیا تھا۔

حضور ﷺ کی آمد و ظہور کے بارے میں اصل انکار تو برناباں کی انجیل، (انکا مضمون) میں ملتے ہیں، تاہم عام انجیل میں بھی آپ کا واضح ذکر درج ذیل الفاظ کی صورت میں موجود ہے۔

حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں،

1- اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ (انجیل یوحنا باب 14- آیت 16، 17)

{مددگار کے لفظ پر بائبل کے حاشیہ میں وکیل یا شفیع بھی تحریر ہے۔}

2- اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا کیوں کہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ (انجیل یوحنا باب 14- آیت 31)

3- لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا۔

(یوحنا باب 15- آیت 26)

4- لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیوں کہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار نہیں آئے گا۔  
(یوحنا باب 16- آیت 8)

5- اسی باب کی تیسری اور چودھویں آیت میں ذکر ہے۔

”مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہیں مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لیے وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو نے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔

(کتاب مقدس مطبوعہ پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور)

## برناباس کی انجیل

صدیوں کی گمنامی کے بعد پردہ غیب سے برناباس کی انجیل ظاہر ہوئی۔ جس کے مطالعے سے تمام شکوک و شبہات کا غبار بھٹ جاتا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ کے بیسیوں ایسے ارشادات موجود ہیں جن میں نبی خاتم النبیین کی آمد کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ ان ارشادات کے ذکر سے پہلے برناباس اور اس کی انجیل کے بارے میں جاننا ضروری لگتا ہے۔

برناباس قبرس کا باشندہ تھا اس کا اصل نام جو سس (JOSES) تھا۔ اس کو

حضرت عیسیٰ کا قرب ایک عرصہ تک حاصل رہا۔ سینٹ پال اور برناباس ایک مدت تک اپنے مذہب کی ترقی اور اشاعت کے لیے اکٹھے کام کرتے رہے۔ سینٹ پال طرسوس کا رہنے والا تھا۔ بعد میں جب سینٹ پال نے بعض حرام چیزوں کو حلال قرار دیا اور سنت برناباس کے مطابق نختے کی رسم کو بھی نظر انداز کر دیا تو برناباس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سینٹ پال کو چونکہ اس وقت کی حکومت اور عوام کی بہرہ رومی اور تائید حاصل تھی۔ اس لیے اس کے پھیلائے ہوئے عقائد کو لوگوں نے دھڑا دھڑ قبول کرنا شروع کر دیا جبکہ برناباس اور اس کے ساتھی گمنامی میں چلے گئے۔

اس وقت کے انطاکیہ کے ہشپ ”پال“ (Paul) کا بھی برناباس کی تعلیمات کے مطابق یہی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نہ تو خدا تھے اور نہ ہی اس کے بیٹے، بلکہ اس کے ہندے اور رسول تھے۔ دوسرا ہشپ ”لیوسیان“ (Lucian) بھی تثلیث کے عقیدے کے سخت خلاف تھا اور اس نے انجیل سے ایسی عبارتیں باہر نکال دی تھیں جن سے تثلیث ثابت ہوتی تھی۔ اس کے خیال کے مطابق یہ عبارتیں بعد میں بڑھائی گئی تھیں۔ اس کو 32ء میں شہید کر دیا گیا تھا۔

اس کے بعد اس کے شاگرد ”اریس“ (Arius) نے بھی یہی مشن جاری رکھا۔

سینٹ پال کے مشرکانہ عقائد کے خلاف مہم میں اس نے برناباس کی انجیل سے حوالے اور دلائل پیش کیے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابتدائی صدیوں میں برناباس کی انجیل

ہی معتبر و مستند سمجھی جاتی تھی۔

383ء میں "پوپ" نے برنباس کی انجیل کا ایک نسخہ حاصل کر کے اپنی ڈالا  
لاہریری میں محفوظ کیا۔ برنباس کے اپنے قلم سے تحریر شدہ انجیل کا نسخہ اس کی وصیت  
کے مطابق اس کی وفات پر اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ "ڈیزو" بادشاہ کی حکمرانی کے  
چوتھے سال اس نسخے کو حاصل کرنے کے لیے جب اسکی قبر کھودی گئی تو یہ نسخہ اس کے سینے  
پر سے ملا۔

1907ء میں "ریگ" (Ragg) اور اس کی بیگم نے ایک لاطینی نسخے سے اس کا  
انگریزی ترجمہ پیش کیا۔ جب یہ ترجمہ چھپ کر بازار میں آیا تو اس کے سارے نسخے پر اسرار  
طریقے سے بازار سے غائب کر دئے گئے۔ اور صرف دو نسخے محفوظ رہے، ایک برٹش  
میوزیم میں اور دوسرا واشنگٹن کی کاتھولک لائبریری میں۔

ذیل میں عقیدہ تثلیث کے بظاہر اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو  
بشارتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ واشنگٹن کی لائبریری سے حاصل کردہ برنباس کی انجیل سے  
ماخوذ ہیں۔

برنباس کی انجیل کے باب 17 میں حضرت عیسیٰ کے حوالہ سے مذکور ہے۔

"But after me shall come the Splendour of all the proph-

ets and holy ones, and shall shed light upon the

darkness of all that the prophets have said because he  
is the Messenger of God".

"لیکن میرے بعد وہ ہستی تشریف لائے گی جو تمام نبیوں اور نفوس قدسیہ کے  
لیے آب و تاب ہے۔ اور پہلے انبیاء نے جو باتیں کی ہیں، ان پر روشنی ڈالے گی کیوں کہ وہ اللہ  
کا پیغمبر ہے۔"

"For I am not worthy to unloose the ties of the hosen  
or the latches of the shoes of the Messenger of God  
whom ye call "Messiah" \ "ho was made before Me and  
shall come after me, and shall bring the words of truth ,  
so that His faith shall have no end".

"(یعنی جس ہستی کا ذکر ہے) میں تو اللہ کے اس رسول کی جو تیوں کے تھے کھولنے  
کے لائق بھی نہیں۔ جسے تم مسیحا کہتے ہو، اس کی تخلیق مجھ سے پہلے ہوئی تھی اور تشریف  
میرے بعد لائے گا۔ وہ چنانچہ کے الفاظ لے کر آئے گا اور اس کے دین کی کوئی امتیاز نہ ہوگی۔"

(باب 42)

"I am indeed sent to the house of Israel as a prophet  
of salvation ,but after Me shall come the "Messiah "

world, for so hath God promised to Abraham 'our father'

”بلکہ میرا طمینان تو اس رسول کی تشریف آوری سے ہو گا جو میرے بارے میں

تمام جھوٹے نظریات کو نیست و نابود کر دیگا۔ اس کا دین پھیلے گا اور سارے جہان کو اپنی گرفت

میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ ابراہیم سے یہی وعدہ کیا ہوا ہے“

اس کے بعد ایک پادری نے یہ سوال پوچھا کہ کیا اس رسول کی آمد کے بعد اور نبی

بھی آئیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا

" There shall not come after Him true prophets sent by

God, but there shall come a great number of false

prophets, where at I sorrow-for Satan shall raise them

up.

”اس کے بعد اللہ کا بھیجا ہوا کوئی سچا نبی نہیں آئے گا، البتہ جھوٹے نبی کثرت سے

آئیں گے جنہیں شیطان کھڑا کرے گا۔“

اس پادری نے دوسرا سوال کیا کہ اس مسیحا کا نام کیا ہو گا اور کن علامات سے

اس کی آمد کا پتہ چلے گا؟ اس کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں

"The name of the Messiah is Admirable, for God

sent of God to all the world ,for whom God hath made

the world, and then through all the world will

God be worshipped and mercy received"

(حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں) ”بے شک میں تو فقط اسرائیل کے گھرانے کی نجات کیلئے

نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں لیکن میرے بعد وہ مسیحا تشریف لائے گا جسے اللہ تعالیٰ سارے جہان

کیلئے مبعوث فرمائے گا۔ اسی کیلئے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تخلیق کی ہے اور اسی کی

کوششوں کے باعث ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پرستش کی جائے گی اور اس کی رحمت

نصیب ہوگی“ (باب 82)

حضرت عیسیٰ اس بات پر پریشان ہیں کہ لوگوں نے آپ کو خدا اور خدا کا پوتا کہنا

شروع کر دیا ہے۔ رومی گورنر اور بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ ہم روم

کے شہنشاہ سے ایک ایسا فرمان جاری کروائیں گے جس میں سب کو آپ کے متعلق ایسی

باتیں کہنے سے روک دیا جائے گا اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری باتوں

سے اطمینان حاصل نہیں ہوا۔

"But my consolation is in the coming of Messenger

Who shall destroy every false opinion of Me, and His

faith shall spread and shall take hold of the whole

"O God ! send us Thy Messenger, o -Muhammad, come quickly for the salvation of the world"

"اے خدا! اپنے رسول کو ہماری طرف بھیج۔ اے محمد! دنیا کی نجات کیلئے جلدی

تشریف لے آئے۔" (باب 97)

حضرت مسیحؑ اپنے حواری برناباس سے اپنے آخری حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، "میرے قتل کی سازش کی جائے گی، چند نکلوں کے عوض مجھے میرا ایک حواری گرفتار کر اے گا لیکن وہ مجھے پھانسی نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے زمیں سے اٹھالے گا اور جس نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے، اس کو میرے بجائے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، فرماتے ہیں،

"I shall abide in that dishonour for a long time in the world ;but when Muhammad shall come, the sacred Messenger of God, that infami shall be taken away and this shall God do, because I have confessed the truth of the Messiah, Who shall give Me this reward, that I shall be known to be alive and to be a stranger to that death of infami".

Himself gave Him the name when had cerated His soul, and placed it in celesetial splendour, God said"wait Muhammad for Thy sake I will to create paradise, the world, and a great multitude of creatures."  
... I shall send Thee into the world ;I shall send Thee as my Messenger of salvation and Thy word shall be true, in so much that heaven and earth shall fail, but Thy faith shall never fail."

"Muhammad is his blessed name."

"مسیح کا نام قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی روح مبارک کو پیدا کیا اور آسمانی آب و تاب میں رکھا تو خود ان کا نام رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اے محمد! انتظار کرو، میں نے تیری خاطر جنت کو پیدا کیا ہے، ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ جب میں تجھے دنیا میں بھیجوں گا تو تمہیں نجات دہندہ رسول بنا کر بھیجوں گا، تیری بات سچی ہوگی۔ آسمان اور دنیا فنا ہو سکتے ہیں، لیکن تیرا دین کبھی فنا نہیں ہو سکتا"

(آپ نے کہا) "محمد اس کا بابرکت نام ہے"

یہ سن کر تمام سامعین نے ان الفاظ میں فریاد کرنی شروع کی،

”طویل عرصہ تک لوگ مجھے بدنام کرتے رہیں گے لیکن جب محمد (ﷺ) تشریف لائیں گے جو خدا کے مقدس رسول ہیں تب میری یہ بدنامی اختتام پذیر ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہی ایسا کرے گا کیونکہ میں اس مسیحا کی صداقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ وہ مجھے یہ انعام دے گا کہ لوگ مجھے زندہ جاننے لگیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس رسواکن موت سے میرا اور کا بھی واسطہ نہیں“ (باب 112)

## پروفیسر آرنلڈ کا ذکر

شاعر مشرق اور مفکر پاکستان، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پروفیسر آرنلڈ (Arnold)

اپنی کتاب "The Preaching of Islam" میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس کا ذکر خالی اردو لچھی نہ ہوگا۔

ایک ذہین و تہذیبی طالب علم نے یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ایک اعلیٰ ترین یونیورسٹی کے پروفیسر سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی ٹھان لی لیکن غربت کے باعث اس یونیورسٹی میں داخلہ نہ لے سکا۔ پروفیسر نے اس پیشکش پر کہ وہ اس کی خدمت پر مامور رہے گا اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا، اس کو داخلہ دلوا دیا۔ ابتدائی ایام میں اس نے شاگرد سے پوچھا کہ مسلمانوں کی سرحد اس کے گاؤں سے کتنی دور ہے؟ شاگرد نے جواب تو دیا پر اس بات پر حیران تھا کہ اس سوال کا تعلیم و تربیت کے معاملے

سے کیا تعلق ہے؟

ایک عرصہ تک وہ پروفیسر کی خدمت اور تعلیم کے حصول میں لگا رہا۔ ایک دن پروفیسر بیمار پڑ گیا اور کلاس میں نہ جاسکا اس دن طلباء اور طالبات کے درمیان انجیل (Bible) میں موجود لفظ "Paraclete" پر بحث چلی لیکن کوئی حتمی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا (عیسائی علماء اس لفظ کے کئی مطلب لیتے ہیں جیسے وکالت کرنے والا یعنی وکیل اور شفاعت کرنے والا یعنی شفیع وغیرہ)۔

واپسی پر شاگرد نے پروفیسر کو صحت کی تمام روئید لوائی جس پر اس کے چہرے پر کچھ محالٰی خیر آثار نمودار ہوئے اور وہ متذبذب دکھائی دیا جیسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ بتانا چاہ رہا ہو۔ شاگرد کے پوچھنے پر پروفیسر بولا،

”اگر میں تمہیں اس لفظ کی حقیقت کے بارے میں سچ بتا دوں تو تم عیسائی دنیا میں نہ رہ سکو گے۔“

نوجوان نے اس کی بات کو راز رکھنے کا وعدہ کیا تو پروفیسر نے کہا،

”یہ لفظ دراصل مسلمانوں کے رسول کے نام ”محمد“ کے لیے بیان ہوا ہے“

یہ سنتے ہی نوجوان پر گھڑوں پانی پڑ گیا اور اس کو ٹھن سے لے کر اب تک کی تمام تعلیم و محنت بے کار جاتی دکھائی دی تاہم اس نے ہمت کر کے پوچھا، اُسے اب کیا کرنا چاہیے؟ تو پروفیسر نے جواب دیا کہ اُسے مسلمانوں کے پاس چلا جانا چاہیے۔

تب نوجوان کو پتہ چلا کہ پروفیسر نے سب سے پہلے اس سے مسلمانوں کی سرحد کے

بارے میں کیوں پوچھا تھا۔ یقیناً وہ دل سے اسلام، قرآن اور محمد ﷺ کی حقیقت و عظمت سے بخوبی آگاہ تھا۔

پروفیسر کی نصیحت کے عین مطابق وہ مسلمانوں کے خلیفہ وقت کے پاس پہنچا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔

## انبیاء کا عہد

تمام سابقہ انبیاء حضرت محمد ﷺ کے ظہور اور آخری نبی ہونے کی بشارت کیسے دیتے رہے؟ اس سوال کا ایک واضح جواب تو یہ ہے کہ ان پر الہام باری تعالیٰ ہوتا رہا اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے درج ذیل وعدہ لیا تھا۔

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ... فَاوَلَّكْتُمُوهُمُ الْفُسْقُونَ (ال عمران - 80، 81)

”اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ تمہیں کتاب و حکمت کی بنیاد میں تمہیں دیتا ہوں پھر جب تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو تمہارے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تم سب اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرورت مدد کرنا (اس کے بعد فرمایا) کیا تم نے اقرار کر لیا اور یہ بھاری ذمہ داری اٹھائی تو سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس پختہ وعدے سے بچھے تو وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔“

حضرت سیدنا علیؑ اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ اگر ان کی موجودگی میں سرور عالم محمد ﷺ تشریف فرما ہوں تو اس نبی پر لازم ہے کہ وہ حضور کی رسالت پر ایمان لائے آپ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے اور پھر آپ کے دین کی تائید کرے۔ یہی وعدہ تمام نبیوں نے آگے اپنی اپنی امتوں سے لیا تھا۔

## کاہنوں کی پیشگوئیاں

نبی رحمت ﷺ کی آمد سے قبل بے شمار کاہنوں نے آپ ﷺ کی ولادت و نبوت کی پیشگوئی کر دی تھی۔ چند نامور کاہنوں کے ذکر سے پہلے کاہن کمانت اور علم کمانت کے ماخذات کا جائزہ خاصاً لے لیا جا رہا ہے۔

عرب قبائل کی تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے معاشرے میں کاہنوں کو بڑا اہم مقام حاصل رہا ہے۔ غلام وجدی کمانت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”امور غیبیہ کو جاننے کیلئے جنوں کی خدمات حاصل کرنے کو کمانت کہتے ہیں۔“

یہ پیشہ اہل عرب میں بہت مشہور تھا، جب بھی کسی شخص کو کوئی پیچیدہ مسئلہ درپیش آتا یا وہ مستقبل کے معاملات پر مطلع ہونا چاہتا تو وہ کسی کاہن کے پاس جاتا اور ہر کاہن کا ماتحت ایک جن ہوتا جو طلب کرنے پر حاضر ہو جاتا اور مطلوبہ چیزوں سے آگاہ کرتا۔“

ایک اور مقام پر ذکر کرتے ہیں۔

”یہ امر بعید از عقل نہیں ہے کیونکہ آجکل یورپ میں فوت شدہ لوگوں کی روتوں کو حاضر کرنے کا علم اہم علوم میں شمار ہونے لگا ہے۔ یورپ کے ممتاز سائنسدان اور پروفیسر ڈاکٹر زبھی اب اس حقیقت کو ماننے لگے ہیں۔ اگر مرنے والوں کی روتوں کو حاضر کیا جاسکتا ہے تو جنات کو حاضر کرنا کیونکر عقل سے دور ہے“

لغت کی رو سے ایک مستند کتاب ”تاج الفردوس“ کے مطابق کمانت کے معنی امور غیبیہ کو جاننے کا دعویٰ کرنے کے ہیں۔

ان امیر کے نزدیک

”کاہن وہ ہوتا ہے جو کائنات کے بارے میں مستقبل کی خبریں دے۔ عرب میں کئی کاہن تھے۔ جیسے سطلج، شق اور کئی دوسرے۔“

سائل کی گفتگو، اس کی حرکات و سکنات اور حالات کی مدد سے حقیقت کا اندازہ لگانے والے کو ”عراف“ کہا جاتا ہے۔

حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص کاہن یا عراف کے پاس گیا تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی (یعنی قرآن پاک کا)۔ ثابت ہوا کہ تنزیل قرآن کے بعد اس طرح کے لوگوں پر یقین کر کے ان کے پاس جانا بکفر ہے۔

ازھری فرماتے ہیں کہ رسول ﷺ کی بعثت سے پہلے کمانت کا رواج عرب

میں عام تھا۔ جب آپ ﷺ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا، شباب عاقب سے آسمانوں کی انطاقت کا اہتمام کیا گیا اور جنوں اور شیطانوں کو آسمانی باتیں چوری چھپے سننے سے روک دیا گیا تو کمانت کا علم ہمیشہ کے لیے باطل ہو گیا۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی تنزیل فرما کر کمانت کی کذب بیانی کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اور حق اور باطل کے درمیان اپنی اس کتاب کے ذریعے تفریق قائم فرمادی۔

## سطح اور شق

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔

”کاہنوں میں سے عہد جاہلیت میں سطح ابن ماذن اور شق بن انمار کو بڑی شہرت نصیب ہوئی۔ انہوں نے ربیعہ بن نصر کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یمن پر حبشہ کی حکومت قائم ہوگی، ان کے بعد قبیلہ نصر حکمران ہوگا اور اس کے بعد آخری نبی مبعوث ہوں گے جن کے دین کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح جب کمری نے موبذ ان کو اپنا خواب سنایا تو اس نے عبدالمسح کو سطح کے پاس خواب کی تعبیر کے لیے بھیجا۔ سطح نے اس کو بتایا کہ تمہاری بادشاہت تباہ و برباد ہوگی اور آخری نبی کے نور نبوت سے ایک عالم منور ہوگا۔ یہ سارے واقعات ایسے ہیں جو درجہ شہرت کو پہنچے ہوئے ہیں“

جن دو واقعات کی طرف علامہ ابن خلدون نے اشارہ کیا ہے ان میں رحمت

عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت و بعثت کے جان افزا مژدے ہیں۔ ہم ان واقعات کا جائزہ مستند متور نظریں کی نظر سے لیتے ہیں۔

ابن ہشام اور علامہ ابو القاسم سہلی کے مطابق تبع خاندان کے حکمرانوں کے بعد ربیعہ بن نضر یمن کا بادشاہ بنا۔ عہد بادشاہت میں اس نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اس کو پریشان اور خوفزدہ کر کے رکھ دیا۔ اس نے اپنی مملکت کے سارے کاہنوں، چادو گردوں، ماہرین نجوم اور اہل قیافہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور خواب کی تعبیر طلب کی انہوں نے کہا آپ ہمیں اپنا خواب سنائیں تو ہم اس کی تعبیر بیان کریں۔ ربیعہ نے جواب دیا خواب بھی تم بتاؤ اور تعبیر بھی۔ تب مجھے اطمینان ہو گا ان سب نے بتایا اگر آپ اپنا خواب بتائے بغیر تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے کوئی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا البتہ جزیرہ عرب میں دو شخص مطح اور شق رہتے ہیں جو عن بتائے آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں۔ اس پر بادشاہ نے ان دونوں کو دربار میں بلا یا۔

مطح، شق سے پہلے پہنچا اور بادشاہ کے دریافت کرنے پر بولا،

”اے بادشاہ تو نے بھڑکتے شعلے اور انگارے دیکھے ہیں جو تاریکی میں سے نکلے اور سر زمین تمامہ پر آگرے اور وہاں موجود کھوپڑی والی ہر چیز کو بڑپ کر گئے“

اس پر بادشاہ فرط حیرت سے چلا اٹھا،

”تم نے بالکل صحیح خواب بیان کیا ہے اب جلدی سے اس کی تعبیر بتاؤ“

مطح بولا تمہارے ملک میں حبشی اتریں گے اور ”ابن“ سے ”جرش“ تک قابض ہو جائیں گے۔

بادشاہ نے کہا، اے مطح! ”تیرے باپ کی قسم، یہ امر ہمارے لیے بڑا المناک ہو گا۔ یہ کب ہو گا، میرے دور میں یا اس کے بعد؟“

مطح نے کہا، تیرے عہد کے ساٹھ ستر سال بعد ان کی حکومت قائم ہوگی اور ان کا راج بھی پچھتر سال بعد ختم ہو جائے گا۔ ان کو یمن سے ذی یزن کی اولاد جلا وطن کرے گی۔

ربیعہ نے پھر پوچھا اس قوم کی بادشاہی کیا ہمیشہ قائم رہے گی؟

مطح نے جواب دیا نہیں۔ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔

اسے کون ختم کرے گا؟ بادشاہ نے پوچھا

جواب ملا۔

”فیہی زکی یا تیبہ الوحی من قبل العلی“

”ایک پاک نژاد نبی ہو گا جس کی طرف خدا کی طرف سے وحی نازل ہوگی۔“

بادشاہ نے دریافت کیا، وہ کس قبیلے سے ہوگا؟ جس پر مطح نے جواب دیا۔

”وہ (نبی) غالب بن نضر بن مالک کی اولاد میں سے ہوگا اور اس کی قوم کی حکومت

زمانے کے اختتام تک باقی رہے گی“

زمانے کی ابتدا کیا ہے؟ بادشاہ نے استفسار کیا۔ جواب ملا،

”پہنک وہ دن جب اولین اور آخرین سب کو جمع کیا جائے گا (یعنی یوم حساب) اور اس دن نیک لوگ، سعادت مند ہوں گے اور بدکار، شقی و بد نخت“۔

نشانتبسی کہی خاطر سیدنا محمد ﷺ کا شجرہ نسب بیان کیا جاتا ہے۔

”سیدنا محمد ﷺ بن عبد اللہ بن مطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان“

صلح کے جانے کے بعد شوق حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس کے جوہات اور صلح کی بیان کردہ تعبیر میں مکمل یکسانیت پائی جس پر اس کے یقین میں مزید پختگی آئی۔

صلح نے لمبی عمر پائی۔ کوئی اس کی عمر تین سو سال اور کوئی پانچ سو سال بتاتا ہے تاہم یہ ایک مستند حقیقت ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی ولادت باسعادت کا واقعہ اس کی زندگی کے آخری حصے میں رونما ہوا تھا۔

سرور انبیاء حضرت محمد ﷺ کی ولادت کی مبارک رات کو کمرای نوشیروان نے خواب میں دیکھا کہ اس کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے چودہ کنگرے گر گئے اور ایران کے اس آتش کدے کی آگ اچانک بجھ گئی جس کو پچھلے ایک ہزار سال سے مسلسل روشن رکھا گیا تھا۔ اس خوفناک خواب نے اس کا جین چھین لیا۔ صبح اس نے شاہی دربار لگا یا اور ابھی اپنا خواب سنانے ہی والا تھا کہ اس کے پاس خط پہنچا کہ اس کے محل کے چودہ کنگرے گر گئے

ہیں اور آتش کدے کی آگ بھی بجھ گئی ہے۔ یہ اطلاع سن کر اس کے غم کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس اثناء میں اس کے مفتی و اعظم موبدان نے کہا میں نے آج ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے جس میں آگے آگے سرکش اونٹ بھاگے جا رہے ہیں اور عربی گھوڑے ان کا پیچھا کر رہے ہیں جو کہ بعد میں دریائے و جلد عبور کر کے ہمارے ملک میں پھیل گئے۔ اس پر کمرای نے بھی اپنا خواب سنایا اور موبدان سے پوچھا تمہارا ان خوابوں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ موبدان بولا لگتا ہے کہ جزیرہ عرب میں کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ چنانچہ کمرای نے ان خوابوں کی حقیقت جاننے کے لیے کسی ماہر کا ہن کو بلانے کے احکامات صادر کیے۔ اس پر صلح کے بھانجے مسیح کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ اور موبدان کے خوابوں کی تعبیر دریافت کرنے پر مسیح نے کہا شام کی سرحد کے پاس میرا ماموں صلح رہتا ہے جو ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔

کمرای نے حکم دیا جاؤ اور صلح سے ان خوابوں کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ اس پر صلح طویل سفر کے بعد صلح کے پاس پہنچا تو وہ بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ صلح بتاتا ہے، ”جب میں صلح کے پاس پہنچا تو وہ قبر کے دہانے پر پہنچ چکا تھا اس نے کہا، تجھے بنو ساسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے تاکہ تو شاہی محل کے لرزنے، آگ کے یک لخت جھ جانے اور موبدان کے خواب کی تعبیر کے بارے میں مجھ سے دریافت کرے۔ موبدان نے خواب میں تیر عربی نسل گھوڑوں کو اونٹوں کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا جو دربار کے ملک کے

مختلف اطراف میں پھیل گئے۔

اس کے بعد اس نے ان خوبوں کی تعبیر کچھ ان الفاظ میں بتائی،

”اے مسیح! جب تلاوت کثرت سے کی جائے گی، عصا و والا ظاہر ہوگا، سادہ کی دوا بننے لگے گی، سادہ کا خمیرہ خشک ہو جائے گا اور فارس کی آگ بھج جائے گی تو یہ شام سطلج کا نہ رہے گا۔ محل کے گرنے والے کنگروں کی تعداد کے برابر کسری کے اور بادشاہ ہوں گئے اور بر آسنے والی چیز آکر ہی رہتی ہے“

جب مسیح واپس کسری کے دربار میں پہنچا اور خوبوں کی تعبیر سنائی تو کسری قدرے مطمئن ہو گیا کہ ابھی اس کے خاندان کے چودہ اور بادشاہ (محل کے گرنے والے کنگروں کی تعداد کے برابر) ہوں گئے اور اس کے لیے کافی مدت درکار ہوگی۔ لیکن اللہ کی قدرت کے انداز عجیب ہوتے ہیں۔ ان چودہ میں سے دس بادشاہوں کی حکومتیں صرف چار سال کے اندر ہی ختم ہو گئیں اور باقی چار میں سے آخری کا دور اس وقت ختم ہوا جب حضرت عثمان غنیؓ کے عہد خلافت میں آخری کسری ”یزجرد“ قتل ہوا۔ یوں ایرانیوں کی تین ہزار ایک سو چونسٹھ سالہ حکومت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اور حضور ﷺ کا یہ ارشاد آج تک آفتابِ روشن کی طرح چمک رہا ہے اور تابہ چمکتا رہے گا۔

”اذا هلك كسرى، فلا كسرى بعدہ“

”جب کسری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا۔“

علامہ ابن کثیر اپنی کتاب میں لوق عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سطلج تک مکرمہ میں آیا تو مکہ کے سرداروں نے بطور امتحان اس سے کئی سوال کیے کہ آخر زمانے میں کیا ہوگا؟

اس پر سطلج نے جواب دیا،

”اللہ نے مجھ پر جو الہام کیا ہے وہ مجھ سے لے لو، اے گروہ عرب! تم اب پیرانہ سنائی میں ہو اور تمہاری بھیر تمہیں اور اہل عجم کی بھیر تمہیں اب برابر ہو گئی ہیں۔ تمہارے پاس عقل ہے نہ علم پر تمہاری اولادوں میں سے عقل و فہم والے لوگ پیدا ہوں گے جو طرح طرح کے علوم حاصل کریں گے، بتوں کو توڑ دیں گے، عجیبوں کو قتل کریں گئے اور بھیڑ بھریوں کو تلاش کریں گے (یعنی گم ہانی کریں گے)۔ اب تک باقی رہنے والے (اللہ کی قسم!) اس شر سے ایک ہدایت یافتہ نبی ظاہر ہوگا جو لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرے گا، یحیٰ اور خندانان بتوں کا انکار کر دے گا، ان کی عبادت سے نفرت کا اظہار کرے گا اور اس رب کی عبادت کرے گا جو ایک ہے۔“

ﷺ

## دانشوروں کی نظر میں

یوں تو رسول اکرم ﷺ کے متناقض غیر مسلم مفکرین اور دانشوروں کی آراء پر مشتمل بے شمار کتابیں ملتی ہیں جن میں انہوں نے آپ ﷺ کو شاندار طریقے سے خراب نمائشیں پیش کیا ہے تاہم چند مشہور ترین شخصیات کا ذکر ہی کافی معلوم ہوتا ہے۔

## گورونانک

سکھوں کے مذہبی پیشوا گورونانک نے اسلام کی تعریف و توصیف میں بہت کچھ لکھا ہے۔ حضور ﷺ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ :

کوئی بھی عمل عدویجیے (اس میں کوئی کسر نہ ہو)۔ اسے چار سے ضرب دے کر اس میں دو جمع کر لیں اور پھر اسے پانچ سے ضرب دے دیں۔ حاصل ضرب کو چھس پر تقسیم کریں اور جو عدد باقی بچ جائے اسے نو سے ضرب دے کر اس میں دو جمع کریں تو جواب 92 آئے گا اور 92م ”محمد“ کے حروف امجد ہیں۔

ثابت ہوا کہ چونکہ کائنات کی ہر شے کے مکمل اعداد کا مجموعہ ”محمد“ کے اعداد کے برابر آتا ہے اس لیے یہ کائنات محمد ﷺ کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگرچہ ہمارا تو ایمان ہی یہی ہے تاہم

دروناک نے اس کا اپنے الفاظ میں استدلال پیش کیا ہے۔

## نیویولین یوناپارٹ

”حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو وجود باری تعالیٰ کا سبق دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے روم میں یہ کام سرانجام دیا تھا۔ اور محمد ﷺ نے یہی اعلان قدیم بر اعظم (ایشیاء) میں کیا تھا۔ مگر عرب بہت ہی بلا سے بت پرست تھے۔ جب لوگ ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ اور عیسیٰ کی تعلیمات کو بھول چکے تھے تو محمد ﷺ نے ان کو مقام کبریا پھر یاد کرایا۔ حضرت محمد ﷺ کی امت ایک مرکز ثقل تھی جس کی طرف لوگ کھینچے چلے آتے تھے۔ اسلام کے پیروکاروں (Followers) نے دنیا کو جھوٹے خداؤں سے نجات دلائی۔ موسیٰ اور عیسیٰ کے پیروکاروں نے پندرہ سو سالوں میں کفر کی اتنی نشانیاں مندم نہ کی تھیں جتنی اسلام کے پیروکاروں نے صرف پندرہ سالوں میں کر دکھائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد ﷺ کی ہستی انتہائی عظیم تھی۔“

## تھامس کارلائل

اپنی فاضلانہ تصنیف ہیروز اینڈ ہیرو ووشپ (Heros And Hero Wor-

snip) میں برطانیہ کا یہ عظیم ادیب و فلسفی رقمطراز ہے،

”وقت آ گیا ہے کہ ہم اسلام پر لغو الزامات لگانے سے باز آجائیں۔ حضرت

محمد ﷺ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے تعصبات کو ترک کرنا ہوگا۔"

مزید لکھتا ہے،

"بانی اسلام (محمد ﷺ) کے ناقابل انکار فضائل کا انکار انصاف کا خون کرنا اور حق

پسندی کی پیشانی پر کلنگ کا ٹیکہ لگانا ہے۔۔۔ اس مقدس ہستی کا وجود ہی خالق کائنات کے وجود کی روشن اور زبردست دلیل ہے۔"

لیکچرار محمد اعظم جب 1940ء میں کارلائل کی اس کتاب کے اردو ترجمے کے دوسرے ایڈیشن کی تیاری میں مصروف تھے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک خط کے ذریعے کارلائل کی اس حقیقت پسندی کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا تھا،

"میں جس زمانے میں انگلینڈ میں زیر تعلیم تھا، کارلائل کی کئی انگریزی تصانیف کا مطالعہ کیا تھا۔ اس وقت سے میں چیمپسی کے اس عظیم دانشور کی خدمات کا معترف ہوں۔ اس نے ہمارے پیغمبر پاک ﷺ کی حیات طیبہ اور کارناموں کی غیر جانبدارانہ تصویر پیش کر کے نہ صرف عالم اسلام کی بلکہ پوری دنیا کی بے پناہ خدمت کی ہے۔"

مائیکل ہارٹ

ممتاز امریکی مصنف مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب،

"The 100, The Most Influential Persons In History"

میں تاریخ عالم کی سو عظیم ترین شخصیات اور ان کے کارہائے نمایاں کو سجا کیا ہے۔ فاضل

مصنف نے ان عمد ساز شخصیات میں حضرت محمد ﷺ کو سر فہرست یعنی اول نمبر پر رکھا۔ خود عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کو تیسری بہترین شخصیت قرار دیا۔ اور حضور ﷺ کو سر فہرست (Top Of The List) رکھنے کی بے شمار وجوہات بھی بیان کیں، رقمطراز ہے،

"محمد ﷺ دنیا کی تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں کامیاب و کامران رہے۔ دنیا میں جتنے لوگوں نے انقلابی کام کیے، وہ کارنامے ان کے بغیر بھی رونما ہو سکتے تھے لیکن اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو اتنا عظیم کارنامہ (ہدایت دنیا کا) کبھی انجام نہ پاتا۔"

کونسلن ور جمل جاں جیو

رومانیہ کا یہ سائق دزیر خار جہ آنحضرت ﷺ کی تعلیمات و ذات کا طویل مطالعہ (اس نے تحقیق کی غرض سے پچیس سال مکہ اور مدینہ میں گزارے) کرنے کے بعد آپ ﷺ کے لائے ہوئے انقلاب اور انقلاب فرانس (۱۷۸۹ء) کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے لکھتا ہے،

"انقلاب فرانس محدود وقت کے لیے بھی فرانسیسیوں میں مساوات قائم نہیں کر سکا جب پیغمبر اسلام نے ہمیشہ کے لیے کامل مساوات قائم کر دی اور آپ ﷺ کا خود اپنے

بیٹ پر پتھر باندھ کر کام کرنا، بلال اور اسامہ جیسے حبشہ میں کاسیدنا کھانا، ابو بکر اور عمرؓ خود گارا اٹھانا اور صرف اور صرف اسلامی مساوات کے ثمرات ہی ہو سکتے ہیں۔ اس مساوات کے مقابلے میں انقلاب فرانس کے انسانی مساوات کے دعوے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔“

### لامارٹن

”اگر نصب العین کی بلندی، مساوات کی کمی اور نتائج کی درخشندگی، انسانی نبوغ کا معیار ہیں تو کون ہے جو اس باب میں محمد (ﷺ) کے مقابلہ میں کسی اور انسان کو پیش کرنے کی جرات کر سکے۔“

### ایڈورڈ گین

قدیم اور عظیم سلطنت روم کے زوال کے اسباب لکھتے ہوئے اپنی کتاب "The Decline And Fall Of The Roman Empire" میں لکھتا ہے، ”پیغمبر عرب کی ذہانت و فطانت اور آپ (ﷺ) کی قوم کے اطوار اور مذہب ہی جذبہ مشرقی سلطنت (روم) کے زوال کے اسباب تھے۔ ہماری نگاہیں بڑے تجسس کے ساتھ آپ (ﷺ) کے اٹائے ہوئے یادگار ترین انقلاب پر لگی ہوئی ہیں جس نے دنیا کی قوموں پر نیا اور نہ ختم ہونے والا اثر ڈالا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس طاقتور انقلاب کو رونما کرنے والے انسان

محمد (ﷺ) کو پاک اور غور کرنے والی طبیعت عطا فرمائی گئی تھی۔“

### وضاحت

مگر کارِ رسول (ﷺ) کو پیغمبر عرب قرار دینا اس کی ذاتی سوچ تھی تاہم یہ بات تعلیمات حق اور قرآن سے ہدایت کی دلیل ہے کیونکہ آپ (ﷺ) دو واحد نبی ہیں جن کو پوری دنیا کی ہدایت اور روشنی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ (اعراف۔ 158) اور اللہ کا شکر ہے ہم آپ (ﷺ) کی امت سے پیدا فرمائے گئے ہیں۔

### این جے کولسن

کولسن اپنی شہرہ آفاق تصنیف "A History Of Islamic Law" میں ذکر کرتا ہے۔

”جب تک محمد (ﷺ) زندہ رہے، تنازعات کا فیصلہ کرنے کے لیے قدرتی طور پر آپ کو مثالی شخصیت تصور کیا جاتا رہا۔۔۔۔۔ آپ کو منصف اعلیٰ کا بند مرتبہ عطا فرمایا گیا تھا تا کہ آپ وحی خداوندی کی عام دفعات کی تعبیر و تشریح (Interpretation) کا کام سرانجام دے سکیں۔“

## اپنی بیسٹ

اس اریبہ کے نزدیک

”جو شخص عرب کے اس عظیم پیغمبر ﷺ کی زندگی اور کردار کا مطالعہ کرے آپ کی تعیبات اور طرز حیات سے آگاہ ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کے بڑے رسولوں میں سے اس عظیم نبی ﷺ کے احترام کا جذبہ نہ رکھے۔“

## ایڈورڈ فری مین

یہ مفکر حضور ﷺ کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔

”حضرت محمد ﷺ وہ عظیم عرب قانون دان تھے جن کے مقدر میں اپنے دور میں دنیا کو مکمل طور پر بدل دینا اور آنے والے تمام زمانوں میں دنیا پر گہرا اثر ڈالنا لکھ دیا گیا تھا۔ آپ ﷺ ہمیشہ اللہ کے بندے اور رسول رہے۔ آپ کی جگہ اگر کوئی دنیا باز ہوتا تو وہ معجزاتی طاقتوں کا دعویٰ کرتا اور اپنے آپ کو زمین کی بادشاہت سے مزین کر لیتا لیکن آپ نے صرف اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور ذاتی اعزازات کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔“

## تھامس آرنلڈ

اس مشہور مصنف کے نزدیک،

”مسلم الہیات کے مطابق حضرت محمد ﷺ خاتم الانبیاء تھے۔ بلاشبہ نبوت کا سلسلہ آپ کی ذات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ جس امت نے آپ کو اپنا سربراہ تسلیم کیا تھا، اس کے لیے حضرت محمد حاکم، منصف، مبلغ اور باجماعت نماز کے امام تھے۔ نبوت کے علاوہ باقی تمام امور آپ کے جانشینوں تک منتقل ہو گئے تھے۔ خدائی الہام کا سلسلہ آپ ﷺ پر جا کر ختم ہو گیا تھا۔“

## جوزف نوٹن

اپنی معرکہ آرا تصنیف ”Islam And European Civilization“ میں

لکھتا ہے،

”حضرت محمد ﷺ کا مذہب، روس کی مطلق العنانیت اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کی جمہوریت دونوں کے لیے یکساں سوزوں ہے۔ یہ مذہب عالمگیر سلطنت کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔“

## جان دلیم ڈر پیپر

یہ عظیم مورخ بیان کرتا ہے،

”569ء میں ”جسٹینین“ کی وفات ہوئی، اس کے چار سال بعد عرب کے شہر مکہ میں ایسا

انسان محمد ﷺ پیدا ہوا جس نے سب لوگوں سے بڑھ کر نسل انسانی پر عظیم ترین اثر ڈالا۔“

## رائٹ گلک

یہ مشہور ماہر تعلیم "Mohammad The Educator" میں لکھتا ہے،

"حضرت محمد ﷺ کو اپنی پہلی وحی میں حکم بھیجا گیا تھا کہ پڑھ، انہوں نے جواب دیا تھا، میں پڑھتا نہیں جانتا۔۔۔ ان کی تعلیمات کسی پڑھائی کا نتیجہ نہ تھیں۔ کسی شخص نے ذرہ برابر بھی اس بات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کہ قرآن کی ایک سورت بھی ساتویں صدی کے کسی عرب کی تحریرات پر مبنی ہے۔ عیسائی صحائف کی پیشگوئی کی رو سے حضرت محمد اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے اور ان کا کام سنی ہوئی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت محمد نے سورج اور سیاروں کی گردش کے بارے میں بھی بتایا تھا، آپ کی اس وحی کی سچائی کو جاننے کے لئے سائنسدانوں کو ہزار سال لگ گئے۔"

☆☆☆

## اسلام کے متعلق غیر مسلم مفکرین اور نو

### مسلموں کے تاثرات

طواالت کے پیش نظر صرف چند لوگوں کے ذکر پر ہی اکتفاء کروں گا۔

### گوئٹے

معروف مفکر گوئٹے بیان کرتا ہے،

"اسلام کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس کی تعلیمات انسان کو ان بلند یوں تک پہنچا دیتی

ہیں جو انسانی تصور سے بھی دور ہیں" (اسلام از ادور چائکس)

### ڈاکٹر اینڈ ریوز

اس کی رائے کے مطابق تاریخ کے ایک نہایت نازک موز پر جب تمام دنیا بنتوں کی پوجا کر رہی تھی تو اسلام نے لاله اللہ کی آواز بلند کی۔ اگر آج دنیا میں خدا کا ایک واضح اور غیر مبہم تصور ملتا ہے تو وہ اسلام اور مسلمانوں کی انتھک اور طویل جدوجہد کا نتیجہ ہے

(دی سائنڈ، القرآن بلڈز)

## میجر آرتھر لیونارڈ

اپنی کتاب "اسلام کا روحانی اور اخلاقی پایہ" میں لکھتا ہے،

"بہر حال تحقیق کرنے والا یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اسلام ایک سچا اور

عظیم مذہب ہے جو کہ اپنے ماننے والوں کو انسانی اندھیروں اور گمراہیوں سے نکال کر روشنی اور سچائی کی بند یوں تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔"

## ڈاکٹر برجس کی رائے

اسلام کے بنیادی اجزاء دو ہیں دعا (عبادت) اور عمل اور ان کی حدود پیغمبر اسلام نے سچے اس طرح مقرر فرمائیں۔ تم یوں عبادت کرو گویا تم اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہو اور یوں کام کرو گویا عبادت شغل بے کاراں ہے۔ اسلام کا پیغام وہی ہے جو پہلے انبیاء نے دیا تھا۔ (دی مائیز القرآن بلڈرز)

## ڈاکٹر لی آن

ڈاکٹر لی آن۔ ایم۔ اے، پی۔ ایچ۔ ڈی، ایل۔ ایل ڈی برطانیہ کا ایک سائنسدان تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام ہارون مصطفیٰ رکھا، کہتا ہے۔

"اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی بنیاد عقل پر رکھی گئی ہے۔ عقل

انسانی دماغ کی ایک اہم قوت ہے جسے کلیسا خاطر میں نہیں لاتا لیکن اسلام کا یہ حکم ہے کہ کسی بات کو قبول کرنے سے پہلے اسے عقل کے پیمانے پر پرکھو۔ اسلام اور صداقت دو مترادف الفاظ ہیں اور کوئی شخص عقل کی مدد کے بغیر صداقت تک نہیں پہنچ سکتا"

## پروفیسر ڈاکٹر رالف بیرن

یہ آسٹریا کا باشندہ تھا بعد میں ترکی اور مدراس میں رہا۔ اسلام کے مطالعہ کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور کئی کتابیں بھی لکھیں۔ 1949ء میں مدراس یونیورسٹی میں پروفیسر رہا، اسلام سے متعلق لکھتا ہے،

"اسلام اسی صداقت کا نام ہے جو سب سے پہلے آدمی پہ آشکارا ہوئی تھی اور آخر میں محمد ﷺ پر۔ اسلام انسانی اخوت کا داعی ہے اور رنگ، نسل، زبان اور جغرافیائی اختلافات کو قطعاً خاطر میں نہیں لاتا"

## ڈاکٹر مارقس

ڈاکٹر مارقس ایک جرمن صحافی تھا اور اسلام لانے کے بعد حامد مارقس کہلانے لگا، لکھتا ہے "اولاً میں اس اخلاقی و روحانی انقلاب سے متاثر ہوا جو اسلام نے پیدا کیا دوم اس حقیقت سے کہ اسلامی تعلیمات سائنس کی جدید تحقیقات سے متصادم نہیں، سوم یہ کہ اسلام ایک فرد کو آزادی سے محروم نہیں کرتا بلکہ آزادی کی جائز حدود متعین کرتا ہے۔"

چہارم یہ کہ اسلام وسعت ظرف و نظر کی تعلیم دیتا ہے اور صداقت، جس بھی طریقے سے ملے اس کو لے لیتا ہے۔“

## لارڈ فاروق

اس نے 1918ء میں اسلام قبول کیا اس کا پرانا نام جارج ایلسن ہیڈلے تھا۔ کیمبرج (CAMBRIDGE) کا تعلیم یافتہ تھا۔ اس کی تصانیف میں سے اے دیسٹرن او یکنگ ٹو اسلام (A Western Awakening to Islam) بہت مشہور ہے، اسلام لانے سے متعلق لکھتا ہے۔

”میں کسی کے کہنے سے مسلمان نہیں ہوا بلکہ یہ تبدیلی میرے طویل مطالعہ و فکر کا نتیجہ تھی۔ میں نے زندگی کے متعلق کچھ اصول و نظریات قائم کیے تھے جو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق پائے۔ اسلام اور عیسائیت دونوں تقریباً ملنے جلتے مذہب ہیں اور ایک ہی درخت کی شاخیں معلوم ہوتی ہیں۔ میں ایسے ہزار ہا افراد کو جانتا ہوں جو ذہناً مسلمان ہیں لیکن تنقید کے خوف سے اعلان نہیں کر سکتے“

## محمد اسد آسٹروی

یہ نو مسلم آسٹریا کا باشندہ تھا۔ اس کا سابقہ نام لیو پولڈوس تھا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد وہ یہاں آیا اور کئی کتابیں لکھیں نیز صحیح بخاری کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا، کسی

نے اس سے اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، ”میرے پاس اس بات کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں تاہم میں اسلام کے عام اخلاقی و روحانی تعلیمات نیز عملی پروگرام سے متاثر ہوا ہوں۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کا ہر جز دوسرے سے ہم آہنگ ہے اس میں نہ تو کوئی بات زائد ہے اور نہ کم۔ یہ ہر طرح سے مکمل، آراستہ اور متوازن ہے، گو آج کا مسلمان عملاً مسلمان نہیں رہا تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام ایک زبردست طاقت ہے۔ جو نوح انسان کو فلاح و مسرت سے ہم کنار کر سکتی ہے“

## الیگزینڈر رسل

امریکہ کی ریاست کو لمبیا کا باسی تھا۔ بڑے بڑے سیاست اور جرنلزم میں بین الاقوامی شہرت پائی اور انیسویں صدی کے اختتام پر دائرہ اسلام میں داخل ہوا، بیان کرتا ہے،

”میں اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ صرف اسلام ہی انسان کی روحانی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ میں پندرہ سال کی عمر میں ہی کلیسا کے بے جان نظام سے سزا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مل، لاک، کانٹ، بیگل، فٹن، ہیکسٹل اور دیگر علماء و حکماء سے ملا۔ ان لوگوں نے مجھے جاندار اشیاء اور ایٹم وغیرہ کے بارے میں بتایا پر روح کے بارے میں کچھ نہ سمجھا سکے کہ

جد از مرگ وہ کہاں جاتی ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے وغیرہ۔ ان سوالوں کا جواب اسلام نے فراہم کیا۔ میرا اسلام قبول کرنا کسی فوری جذبے کے تحت نہیں بلکہ مسلسل، دیانتدارانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیق کا نتیجہ ہے جسکا ما حاصل اللہ کی مشیت کے سامنے جھک جانا ہے اور عبادت اس کا سنگ بنیاد ہے۔“

## لارڈ برنٹن

یہ برطانیہ کا ایک نواب تھا اور قبولیت اسلام کے بعد برسوں لاہور کی بستلی اچھرہ میں رہا۔ گلی گلی گھوم کر لوگوں کو دیانت، صداقت، محبت، اخوت اور خدمت کا درس دیا کرتا تھا۔ اپنے ایک دوست امیر الدین کی ترغیب پر مسلمان ہوا اور اسلامی نام جلال الدین رکھا، بیان کرتا ہے۔

”عیسائیت کا یہ عقیدہ کہ انسان فطر تا گنہگار پیدا ہوا ہے، خدا کے متعلق یہ تصور پیدا کرتا ہے کہ خدا بے رحم اور جاہل ہے۔ مجھے اس عقیدے سے نفرت تھی چنانچہ میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا اور یہ مجھے انتہائی پسند آیا کیونکہ سادہ اور فطری مذہب ہے اور خلوص، محبت، تحمل اور ہمہ گیر اخوت کا داعی ہے۔“

## کرنل ڈانلڈ

امریکہ کا یہ مشہور مصنف، نقاد اور شاعر رتنپراز ہے۔ ”میں اسلام کی

سادگی، مساجد کی مقدس نضاء، اور پانچ وقت کی عبادت سے بہت متاثر ہوا ہوں اسلام میں کئی خوبیاں ہیں جیسے ÷

- 1- یہ پہلے انبیاء اور صحائف کا مذہب ہے۔
- 2- اس نے خواتین کو حق جائیداد عطا کیا اور انسان کو انفرط و تفریط سے بچایا۔
- 3- شراب، قمار بازی اور سود سے روکا۔
- 4- صحیح جمہوریت کا سبق دیا اور غریب کو امیر کا ہم پلہ بنا دیا اور نسل کے امتیازات ختم کیے۔
- 5- تمام درمیانی واسطے بنا کر انسان کا تعلق براہ راست خدا سے قائم کیا۔

## ملیما

بالینڈ کا یہ مصنف 1954ء میں لاہور آیا اور مسلمان ہو گیا۔ قبولیت اسلام کی

وجوہات پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

مجھے اسلام کی یہ چیزیں بہت پسند آئیں، اول۔ خدا اور اس کی صفات کا حسین تصور۔ دوم۔ کہ زید کے گناہوں کی سزا بجز کو نہیں ملے گی۔ سوم۔ تمام انسان برابر ہیں، رنگ و نسل کا امتیاز کچھ نہ ہے۔ چہارم۔ یہ روح اور مادہ کو ایک ہی حقیقت کے دو رخ سمجھتا ہے۔“

## مریم جمیلہ

یہ امریکہ کی یہودی لڑکی تھی۔ مولانا مودودی سے خط و کتابت کرتی رہی اور بیسویں صدی کے وسط میں مسلمان ہو گئی۔

اعلان اسلام پر اس کا امریکہ میں جینا دوپھر ہو گیا تو لاہور میں آکر بس گئی اس کی دو تصانیف اسلام اینڈ ماڈرنزم (Islam & Modernism) اور اسلام اینڈ ویسٹ (Islam & West) خصوصاً شہرت کی حامل ہیں۔ قبولیت اسلام کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتی ہے،

”میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ مجھے کبھی مذہب سے نفرت تھی بلکہ اس لیے قبول کیا کہ مجھے اس سے کمال محبت ہو گئی تھی۔ یہودیت ایک محدود اور تنگ معاشرہ ہے جب کہ اسلام ایک ہمہ گیر آفاقی مذہب اور میں نے لامحدودیت کو محدودیت پر ترجیح دی۔“

## مس فاطمہ کاظوٹی

جاپان کی یہ لڑکی مسلمان ہونے کے بعد کہتی ہے۔

”اسلام ایک نہایت سادہ، خالص، سچا اور سکون بخش مذہب ہے۔ یہ فرد اور جماعت دونوں کو درس امن سے ہمکنار کرتا ہے۔ الحمد للہ کہ اب میں بھی اس دولت

سے مالا مال ہوں۔“

## ہرین فاطمہ

سابقہ مغربی جرمنی کی یہ خاتون اسلام لانے کے بعد لکھتی ہے،

”مجھے میرے والدین، بھائی اقارب و احباب بہت یاد آتے ہیں اور یہ نقصان کسی طرح بھی پورا نہیں ہو سکتا لیکن میں پھر بھی خوش ہوں کیوں کہ اسلام قبول کرنے سے مجھے سکون قلب کی دولت مل گئی ہے۔“

واضح رہے کہ یہ خاتون قبولیت اسلام کے بعد تمام اعراب و اقرباء کو چھوڑ کر پاکستان آ گئی تھی۔

## جان ایف سی بی

کیرج کا فارغ التحصیل تھا، یہ عیسائی اسلام قبول کرنے کے بعد کہتا ہے،

”میں اسلام اس لیے لایا ہوں کہ اس کی تعلیمات حکمت و دانش پر مبنی ہیں۔ یہ مساوات کا قائل اور بدویانہ اور بے انصافی کا دشمن ہے۔“

## جان ویبسٹر۔ محمد

انگلینڈ کا یہ نو مسلم لکھتا ہے،

”میسائیت زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ دنیا کو شیطان کی بازی گاہ اور انسان کو فطرتاً گنہگار سمجھتی ہے۔ اگر ہم مسیحی تعلیمات پر عمل کریں تو صرف راہب بن سکتے ہیں۔ اور نہ کریں تو خطا کار بن کر رہ جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو اس قسم کی پیچیدگیوں سے پاک ہے۔“

### ایک وضاحت

اسلام میں ترک دنیا اور رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دین دنیا دونوں کے فرائض، ذمہ داریوں اور لوازمات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔

### ماری۔ علی محمد

یہ جاپانی 1930ء میں مسلمان ہوا، بیان کرتا ہے۔

”میرا ایمان ہے کہ ہمارے اضطراب کو صرف اسلام ہی دور کر سکتا ہے۔ اور اللہ کا یہ پیغام بہت جلد پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ اور روئے زمین جو اس وقت اضطراب کا ایک جنم بن چکی ہے، فردوس سکون میں بدل جائے گی۔“

### پروفیسر گبز

آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر گبز کی رائے کے مطابق،

”اسلام بین الاقوامی تعاون کی بہترین روایات کا حامل ہے۔ دنیا میں اور کوئی ایسا معاشرہ موجود نہیں جس نے مختلف اقوام و قبائل کو متحد کر کے انہیں ہر حیثیت سے برابر سمجھا ہو۔ افریقہ، ایشیا اور یورپ میں اسلام کا وجود اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام ہر نسل، رنگ اور نسب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ اگر یورپ نے اسلام سے فائدہ نہ اٹھایا اور یہ قوت ایشیا اور افریقہ کے پاس چلی گئی تو یورپ پٹ کر رہ جائے گا۔ اگر یورپ اپنی سوسائٹی میں روحانی اور اخلاقی اقدار کی ترویج چاہتا ہے تو اسے اسلام کا سہارا لینا ہی پڑے گا۔“



## متفرقات

باب ہشتم

### اسبابِ مصائب

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہمیں جو پریشانیوں اور مصائب لاحق ہوتی ہیں، ہمارے اپنے برے اعمال و گناہوں ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ اپنے مقرب بندوں کو بھی آزمائشوں کی خاطر نعم و مال میں مبتلا کرتا ہے لیکن ایسے لوگوں کی تعداد ہمارے سچ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اسی پر ارشاد ہوا،

1۔ ”اے سننیے والو! تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو تکلیف ہوتی ہے، اپنی طرف سے ہوتی ہے (یعنی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتی ہے)۔“ (نساء-79)

2۔ ”خشکی اور تری میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ انہیں اُن کے اعمال، بد کامیوں چکھائے کہ وہ باز آ جائیں۔“ (روم-41)

اگر ہم غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نیک اور اچھے کام کرنے کی عادت پر ہمیں سکون و فرحت، ایمان و توفیق اور عزت و عظمت جیسی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جبکہ

گناہوں اور بد اعمالیوں پر بے سکونی، مصائب، ہمدردیاں اور خوف ہمارا مقدر بن جاتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ سو فیصدی ایسا ہی ہے لیکن ہماری بد اعمالیوں پر ہمیں جو سزا میں ملتی ہیں ان پر صرف دکھائیں ہو تاکہ فلاں وجہ سے یہ تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے۔ حالانکہ کرم الہی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں پر گرفت کرتا ہی نہیں ورنہ ہمارا حال پتہ نہیں کیا ہو؟

”اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم (گناہ) پر گرفت کرنے لگے تو زمین پر کوئی بچی چلنے والا نہ بچے“ (نحل-61)

ان حقائق کو جاننے کے بعد ایسا کون ہو گا جو جانتے بوجھتے اپنے لئے بے سکونی، ہمدردیاں اور مصائب خریدے گا۔

جو گناہ تو گذر چکے ان کا علاج کثرتِ استغفار (توبہ کے مضمون میں تفصیل سے پڑھئے) سے کر کے گناہوں کو زندگی سے ہمیشہ کیلئے نکال دیں تو دکھوں اور مصائب کا سلسلہ معاً ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ

1۔ ”جو ہم پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہو گا اور نہ ہی کوئی غم۔“ (انعام-48)

2۔ ”بیشک اللہ اہل ایمان کی مصیبتیں اُٹالتا ہے۔“ (حج-38) اور

3۔ ”اور جو لوگ ہم پر ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ناحق چیزوں (گناہ و ظلم وغیرہ) کی آمیزش سے پاک رکھا، حقیقی امن و سکون انہی لوگوں کو حاصل ہے اور یہی لوگ راہِ نجات پر ہیں۔“ (انعام-83)

عزت والا سے ثابت ہوا کہ راہ گناہ نجاتی، مصیبت، الفلاس، مصاری، رسوائی اور بے عزتی کی راہ ہے اور نیکی کا راستہ انسان کو علم و عزت، قیادت و سعادت، اطمینان و سکون، محبت و عروج، عظمت و دوام اور قرب الہی تک لے جاتا ہے اور تب خالق حقیقی کی طرف واپسی کچھ اس پیغام سے ہوتی ہے۔

”اے مطمئنین روح! اپنے رب کے پاس کچھ اس طرح آ کہ وہ تجھ سے خوش ہے اور تو اُس سے“۔ (نجر۔ 27، 28)

﴿یا مالک! تیرے ایسے بندوں پر رشک آتا ہے۔﴾

☆☆☆

## راہِ سکون

مادہ پرستی کے جدید دور نے انسان کو افراتفری، بے چینی اور اضطراب جیسے تحائف سے کچھ زیادہ ہی نوازا ہے۔ چین و سکون کا حصول کیسے ممکن ہے؟، ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینے سے عقل انسانی قاصر ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی عظیم ترین تنزیل، قرآن مجید میں اس سئلے کا حل کچھ یوں بیان فرماتے ہیں،

”یا د رکبوا کہ دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے“۔ (رعد۔ 28)

اور ذکر کس طرح کا ہو؟

”اے ایمان والو! اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی حمد و ثنا، کئے گیت گایا کرو“۔ (ازاب۔ 41، 42)

کیونکہ،

”اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی بڑی چیز ہے“۔ (عنکبوت۔ 45)

اور یاد رکھو کہ کہیں،

”اے ایمان والو! تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں“۔ (منافقون۔ 9)

☆☆☆

## سچی توبہ اور اس کی شرائط

مصائب سے نجات اور آخرت کی بہتری کے لیے اللہ سے اپنے گناہوں کی تہہ دل سے معافی طلب کرنا اور آئندہ کبھی ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرنا ”توبہ استغفار“ کہلاتا ہے۔ اس کی درج ذیل شرائط ہیں۔

- 1- اپنے گناہوں کا تہہ دل سے اعتراف کرنا اور تادم ہونا،
- 2- رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے معافی طلب کرنا،
- 3- آئندہ اس گناہ یا گناہوں کے بارے میں سوچنے تک سے باز رہنا اور اللہ سے ایسی پرہیزگاری کی توفیق مانگنا اور
- 4- زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا تاکہ گناہوں کی تلافی ہو سکے،

☆ توبہ غلٹی کبیرہ ترین گناہ ہے ایسا کرنے پر انسان شدید ترین دنیاوی اور اثری عتاب سے دوچار ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر کبھی ایسی غلطی ہوئی جائے تو مایوس ہونے کے بجائے پہلے سے بھی بہتر انداز میں توبہ کرنی چاہیے کیونکہ بہر حال،

”بیشک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

(قرہ-222)

☆ توبہ کی قبولیت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے۔

(قرہ-160)

1- ”اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں۔“  
2- ”کیا وہ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور خیرات منظور کرتا ہے بیشک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے۔“

(توبہ-104)

☆ توبہ کرنے کی توفیق بھی صرف وہی عنایت کرتا ہے۔

”تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب نازل کر دے۔“

(آل عمران-128)

☆ اہل ایمان کے لیے حکم ہے۔

”تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ نجات پا سکو۔“ (نور-31)

سچے دل سے توبہ اور قبولیت توبہ کے بعد بدہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہے۔

توبہ استغفار کرنا اور گناہوں کو زندگی سے نکال باہر کرنا، تکلیفیوں، خوف اور

بے چینی کا واحد موثر علاج اور آخرت میں سرخروئی کی علامت ہے۔

## فرقہ پرستی

اگرچہ ہم غور نہیں کرتے تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم دیگر اسلامی علوم اور اعمال پر کم اور فرقہ دارانہ اختلافات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوالات ضرور پوچھنے چاہئیں۔

1- جب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی کتاب میں فرقہ بندی اور اختلافات میں پڑنے سے قطعی طور پر منع فرمایا گیا ہے (آل عمران-103، 105) تو اس صریح حکم کے بعد فرقہ پرستی کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اگر کوئی نہیں تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے اس واضح حکم کو نہیں مانتے؟

2- مختلف نام نہاد گروہوں کے جن علماء اور اماموں پر ہم تنقید کرتا ہوں اپنا فرض سمجھتے ہیں کیا ان کے علوم کا آدھا بلکہ ایک چوتھائی حصہ بھی ہمارے پاس ہے؟ اگر نہیں تو ہم ان کا غلط صحیح کیسے جانچ سکتے ہیں؟

3- ان علماء و اماموں نے لاکھوں احکامات و مسائل کی وضاحت کی لیکن ہم ان پر عمل و بحث چھوڑ کر ان کے اکادک اختلافی مسائل پر ہی کیوں گفتگو کرتے ہیں، بالکل اس مکھی کی طرح جو تمام شفاف جسم کو چھوڑ کر جسم پر موجود چھوٹے سے گندے زخم پر ہی جا بیٹھتی

ہے، باقی تشریحات کو پس پردہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟

4- کسی چیز پر اختلافی نکتے اٹھانا کیا کوئی نئی بات ہے؟ نکتہ چینی تو الہامات پر بھی ہوتی رہی ہے۔ تنزیل قرآن کے موقع پر یہود و نصاریٰ کی پسندیدہ ترین عادت بھی یہی تھی۔ ڈھونڈنے سے اختلافی نکات تو مل ہی جاتے ہیں لیکن اس سے ایسا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ناراضگی نہ مول لے لیں اور ہمارے تمام اچھے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اگر ہم قرآن اور رسول کے افعال اور اقوال کے مطابق صحیح مسلمان کہلا سکتے ہیں تو پھر فرقوں اور اختلافی معاملات دھت سے کیا حاصل؟

5- حدیث مبارکہ کے مطابق بے شمار فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ ہی راہ حق و نجات پر ہو گا اور یقین ماننے کے ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ وہی وہ فرقہ ہے جس کی نشاندہی رسول ﷺ نے فرمائی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟

حسبِ بالا کا فیصلہ آپ پر چھوڑا جاتا ہے۔

☆☆☆

## جہاد فرض ہو چکا

اگر ہم جہاد باسیف کی قدر و منزلت اور حقیقت سے آگاہ ہو جائیں تو خود اہم میں سے کوئی بھی اپنے گھروں میں نہ رہے۔ ذیل میں ہم مختصر بحث کرتے ہیں کہ جہاد ہم پر کیوں کر فرض ہو چکا ہے؟

1- ارشاد خداوندی ہے کہ،

”اور ان (فسادیوں و مشرکین) سے لڑنے رہو یہاں تک کہ کوئی

فتنہ باقی نہ رہے۔“ (قرہ-193)

خود بتائیں کہ کیا دنیا کہ کسی بھی حصے میں ایمان لانے کی راہ میں کفار کی کھڑی کی ہوئی

۔۔ رکاوٹیں اور فتنے ختم ہو سکے ہیں؟ کیا ہندوستان کے شور و جوا اسلامی مساوات سے متاثر ہیں اور

اس کی آغوش میں پناہ لینا چاہتے ہیں، بلا خوف مسلمان ہو سکتے ہیں؟ شاید آپ کو معلوم نہیں

لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ مسلمان ہونے کا اعلان بھی کیا مگر ہندو قوم کے

فتنے و تشدد کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ اسی طرح چین روس اور دوسرے کیونسٹ ممالک میں

بننے والے مسلمان نہ تو اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں کے کیونسٹ کو مسلمان ہونے کی

اجازت ہے۔ کیا تمام عیسائی اور کافر ممالک میں موجود مسلمانوں کو دین کے معاملے میں فتنے کا

اندیشہ نہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر جہاد کے فرض قرار پانے کے بارے میں کیا شبہ

باقی رہ جاتا ہے۔

2- "اور ان (غیر مسلموں اور مشرکین) سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی

فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے" (انفال-39)

نہایت ہو کہ دین اسلام کے مکمل غلبے تک لڑنے کا حکم ہے۔ غور کریں تو معلوم ہوتا

ہے کہ اس وقت تمام دنیا میں دین اسلام کا غلبہ نہیں ہے اور کفار و مشرکین کی مخصوص لابیوں

کا ورلڈ آرڈر چل رہا ہے۔ پوری دنیا میں سود کا معاشی نظام چل رہا ہے جبکہ اللہ کا معاشی نظام سود

سے یکسر پاک ہے۔ جب کفر و شرک پر اللہ کے دین کا غلبہ نہیں اور ہر طرف اللہ کی حدیں قائم

نہیں تو جہاد کی فرضیت لازم ہو جاتی ہے۔

3- "اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں،

عورتوں اور بچوں کو چھیڑا کر کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے

پرور دگاہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں

اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج اور ہمارے لیے اپنے پاس

سے کوئی مددگار عطا فرما دے۔" (نساء-75)

دنیا کے نقشے پر طائرانہ نظر ڈالنے سے ہی حقیقت سامنے آکھڑی ہوتی ہے کہ ہندوستان

، کشمیر، روس، چین، بھارت، فلپائن اور دیگر خطوں کے کمزور (مسلمان) مرد، عورتیں

اور بچے ظلم سے بچانے کی فریاد کر رہے ہیں ان حالات اور قرآن کی واضح آیت کے بعد جہاد کی

فرضیت پر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔

4- "اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر اپنے مقتولوں کا بدلہ لینا فرض

کر دیا گیا ہے۔" (قرہ-178)

کیا ہندوستان، کشمیر، فلسطین، چین، البانیا، یوگوسلاویہ، روس اور دیگر کئی ممالک

میں لاکھوں مسلمان بے وقف نہیں کیے گئے اور ہم نے اپنے مقتولوں کے قتلوں کا بدلہ لینے کے

لیے کیا کوششیں کیں؟ جہاد فرض ہو چکا یا نہیں، خود فیصلہ کریں۔

5- "اگر وہ وعدے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پر لعن طعن کریں تو کفر

کے سرداروں سے لڑو۔" (توبہ-12)

معلوم ہوا کہ اگر کوئی قوم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ یا وعدہ توڑے تو اس کے

خلاف لڑنا فرض ہو جاتا ہے۔

خود ملاحظہ کریں کہ اس وقت دنیا میں کتنی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے

کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کیں۔ قیام پاکستان کے وقت لیاقت، نسر و معاہدے

کے تحت ہندوستان نے مسلمانوں کے جان و مال اور مساجد کی حفاظت کرنی تھی لیکن آئے دن

فرقہ وارانہ فسادات کے نام پر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ان کی مساجد،

کارخانے، گھر اور دکانیں جلائی جا رہی ہیں بدمذہبوں کی شہادت اس بات کا ایک منہ بولتا

ثبوت ہے۔ کیا ہندوستان نے معاہدے کے مطابق کشمیر کے مسلمانوں کو رائے کے استعمال کا

حق دیا؟

6- ارشاد ہوا۔

”اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں“ (بقرہ-190)

اس وقت کشمیر میں ساڑھے سات لاکھ ہندو مسلمانوں پر حملہ آور ہیں اور ہندوستان کی پوری فوج ان کی پشت پر ہے۔ ہر ما کے مسلمانوں پر بدھ حملہ آور ہیں، بوشیا میں سرب درندے مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں اور تمام عیسائی اور کیونسٹ ان کی مدد میں مصروف ہیں۔ اسی طرح چھینا کے مسلمان بھی دشمن کی زد میں ہیں اور اسرائیلی قوم نے عربوں کے دل میں اپنے وجود کا فخر پیوست کر رکھا ہے۔ کیا ان حالات میں جہاد فرض نہیں ہو جاتا؟

7- پھر حکم باری تعالیٰ ہوا

”اور ان کو جہاں پاؤ، قتل کرو اور جس جگہ سے انہوں نے تم کو

نکالا ہے، تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو۔“ (بقرہ-191)

کیا ہمیں اندلس (سپین) سے آٹھ سو سالہ حکومت کے بعد باہر نہیں نکالا گیا اور کشمیر، حیدرآباد، آسام، نیپال، بہار، برما اور جونا گڑھ کی ریاستیں ہم سے نہیں چھینی گئیں؟ اس کے علاوہ فلسطین پر یہودی قابض ہیں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس بھی ان کے قبضے میں ہے۔ اور بیسیوں ممالک جیسے بلغاریہ، ہنگری، قبرس، سلی، حبش، روسی ترکستان، چینی ترکستان اور کاشغر کی حد تک پھیلے ہوئے ممالک جو کل ہمارے قبضے میں تھے، آج ہم ان سے بے دخل ہو چکے ہیں۔ کیا ان تمام کو دوبارہ حاصل کرنا ہمارا فرض نہیں؟

حرف بالا کے بعد موجودہ صورت حال میں جہاد و قتال کے فرض ہونے میں کوئی

شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔

## ما حاصل

اب تک کے تمام بیانات کا حاصل یہ ہے کہ اس بات کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ قرآن اور اس کی تعلیمات و احکامات کو الہامی مان کر ان کے آگے سر تسلیم خم کر کے درج ذیل باتوں کے بارے میں فکر اور تیاری کو انتہائی ضروری تصور کیا جائے۔

1- یہ کہ اس زندگی کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ (اعراف-25، یونس-22 اور طہ-14)

2- عذاب قبر برحق ہے اور ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔

3- قیامت کا دن یعنی جزاء و سزا کا دن ضرور رو پڑیر ہو گا اور ہمیں اپنے اعمال کا عظیم

ترین خالق کے سامنے جوابدہ ہونا پڑے گا۔ (حج-1، صافات-21)

4- درج بالا عقائد اجزائے ایمان میں سے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر

ہے۔

☆☆☆

## احکاماتِ قرآن

بنی نوع انسان کے لیے چیدہ چیدہ قرآنی احکامات کا ذکر درج ذیل ہے

- 1: ایک اللہ اس کے رسولوں اور فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ (نساء-136)
- 2: قرآن تمام الہامی کتب اور روزِ آخرت پر یقین رکھو۔ (بقرہ-4)
- 3: نماز قائم کرو۔ (بقرہ-43)

4: رمضان المبارک کے روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ (بقرہ-183)

5: استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ (آل عمران-97)

6: گزرگزا کرو اور چپکے چپکے اللہ سے دعا کیا کرو۔ (اعراف-55)

7: اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ (بقرہ-172)

8: اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم ﷺ پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لیے تم بھی

محمد ﷺ پر درود بھیجا کرو۔ (احزاب-56)

9: اچھی بات کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ (لقمان-17)

10: تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس لیے دو بھائیوں میں جھگڑا ہو

جائے تو صلح کرواؤ۔ (حجرات-10)

11: والدین، رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ (نساء-36)

12: جانور اور پرندے بھی انسان کی طرح امت ہیں اس لیے ان کا خیال رکھو۔

(انعام-38)

13: اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ (طلاق-3)

14: صبر و نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ (بقرہ-152)

15: معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ (اعراف-199)

16: وعدہ پورا کرو کہ روز قیامت اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔

(ہنئی اسرائیل-34)

17: جھوٹ سے بچو۔ (حج-30)

18: چغلی سے پرہیز کرو۔ (قلم-11)

19: حد مت کرو۔ (نساء-32)

20: اہل علم سے فائدہ اٹھایا کرو۔ (نحل-43)

21: تکبر و غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ (لقمان-18)

22: گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کر کے اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔

(مائدہ-39)

23: رزق حلال کماؤ، یتیموں اور دوسروں کا مال مت کھاؤ۔ (نساء-29)

24: کائنات اور قرآن پر غور و فکر کیا کرو۔ (ص-29)

25: جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلو اور اپنی جان و مال بازی پر لگا دو۔

(بقرہ-244-245)

## ماخذ کتابیں (بشکریہ مصنفین و مؤلفین)

- 1: A BRIEF HISTORY OF TIME ( STEPHAN HAWKING )
2. WORLD IN COLLISION ( IMMANUAL VELIKOVSKY )
3. AN APOLOGY FOR MUHAMMAD ( J.D.PART )
4. ASTRONOMY AND COSMOGONY (SIR JAMES JEANS)
5. BONA PART & ISLAM ( SHEPHLAR )
6. ISLAM IS OUR CHOICE ( اردو ترجمہ - ابراہیم لانی )
7. THE 100 ( MICHEAL HART ) ( ترجمہ ۱۰۰ عظیم آدمی )

8- تجلیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی

9- دو قرآن غلام جیلانی برق

10- دینیات مولانا مسودوی

11- ضیاء النبی (جلد اول) کرم شاہ الازہری

12- میری آخری کتاب غلام جیلانی برق

13- دل، دریا، سمندر واصف علی واصف

14- قرآن اور سائنس پروفیسر نجات صدیقی

15- فلسفہ، سائنس اور قرآن شیخ ندیم الجسر (ترجمہ خدا بخش کلیرائیڈو کیٹ)

16- اسلامی قانون منزیل الرحمن

17- کنزالایمان احمد رضا بریلوی

18- ضیاء النبی جلد دوم کرم شاہ الازہری

19- اسلام جدید دور میں سلمان حسین خان

20- تعلیمات قرآن علامہ اسلم چیراچپوری

21- قرآن حکیم کی پیشگوئیاں محمود احمد خان

22- اللہ میری توبہ علامہ عالم نقری

23- غرائب قرآن عبدالمصطفیٰ اعظمی

24- پیغام اسلام پروفیسر کرم حیدری

25- اللہ کی عادت غلام جیلانی برق

26- علم القرآن (قدر فلاح) مولانا مسودوی

27- بات سے بات واصف علی واصف

28- رمز ایمان غلام جیلانی برق

29- نبی خاتم ﷺ مناظر احسن گیلانی

30- مسلمانوں پر قرآن کے حقوق ڈاکٹر اسرار احمد

31- مفسرین عظام عبد العزیز بلوچ

32- حضور ﷺ غیر مسلموں کی نظر میں محمد مثنیٰ خان

33- انعام القرآن محمد شریف اصلاحی

34- رسول اکرم ﷺ غیر مسلم دانشوروں کی نظر میں۔ پروفیسر شریف بقاء



# حرف آخر

صدہا شکر گزار ہوں اپنے مالکِ بزرگ و برتر کا کہ  
اس نے اپنے حبیبِ مکرم ﷺ کی امت میں سے پیدا  
فرمایا۔

اپنے والدین کا بالخصوص اپنے مہربان والد محترم  
" محمود خان ملک ایڈووکیٹ رحمۃ اللہ علیہ ( سابق  
بی بی و صدر بار کوٹلی و ممبر بار کونسل آزاد کشمیر) کا  
حد درجہ احسان مند ہوں جن کی شخصیت نے میری ذہن و  
قلب میں خیالات کی عظمت بھونکی ، حرفوں کی  
شیرینی گھولی ، لفظوں کی پہچان بخشی اور جستجو  
کی بے تابی سونپی ، جس سے مجھے اظہار کی ایسی  
جرات ملتی رہی ۔

دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حق شناس اس کتاب  
سے فائدہ اٹھائیں جس سے مالک اس کتاب کو میری اور  
میرے والدین کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔

شاہد محمود ملک